

حضرت مجدد ملت بحر العلوم قیوم زماں سرفراز مقام صدیقیت و عبدیت امام العاشقین
محبوب سبحان سیدنا اخندزادہ

پیر ارچی خراسانی
کے مجرب تعویذات

سیف الرحمن مبارک

بہار السیف

حصہ (اول، دوم)

ترتیب

شیخ القرآن والحديث

ڈاکٹر مفتی پیر محمد عابدین سیفی

اردو ترجمہ

پروفیسر حکیم مشتاق احمد عابدی سیفی

دارالعلوم جامعہ جیلانیہ

نادر آباد نمبر 1 بیدیاں روڈ لاہور کینٹ 042-5721609

مکتبہ محمدیہ سیفیہ

0321-8401546
042-6686205

راوی ریان شریف لاہور



حضرت مجدد ملت بحسب العلوم قیوم زمان سرسری مقام صدیقیت و
 عبدیت امام العاشقین محبوب سبحان سیدنا اخذ زادہ
 سیف الرحمن مبارک پیرچی خراسانی کے بحرب تعویذات

بمبارک سیف



شیخ القرآن والحديث مفتی پیر محمد عابد حسین سیفی



پروفیسر حکیم مشتاق احمد عابدی سیفی

ناشر

مکتبہ محمدیہ سیفیہ راوی ریان شریف لاہور

شعبہ نشر و اشاعت ○ دارالعلوم جامعہ حیلانہ

نادر آباد نمبر بیدیاں روڈ، لاہور کینٹ فون ۵۷۲۱۶۰۹

ترتیب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
20	۲۵۔ مایوس مرہیں	6	۱۔ عمل کرنے/تعویذ لکھنے کی شرائط
20	۲۶۔ برائے زوال شہوت		۲۔ امراض بدن
20	۲۷۔ جملہ پر قدرت		۱۔ برائے بخار
21	۲۸۔ برائے اساک	8,7	۲۔ برائے سردرد
22	۲۹۔ برائے برقعہ	9,8	۳۔ برائے پیٹ درد
22	۳۰۔ آیات شفا	11,10	۴۔ برائے درد دل و گھبراہٹ
22	۳۱۔ کوئی علاج مؤثر نہ ہو۔	11,10	۵۔ برائے دانت درد
22	۳۲۔ ہر بیماری۔ اطباء عاجز ہوں	11	۶۔ برائے بواسیر
23	۳۔ امراض مستورات و اطفال	12,11	۷۔ برائے یرقان
	۱۔ برائے حمل	12	۸۔ برائے مرگی
25,23	۲۔ برائے فرزند زینہ	13	۹۔ برائے ناف
26,25	۳۔ ولادت میں آسانی	14,13	۱۰۔ برائے گولہ نمبی
27	۴۔ خون حقیق کھولنے کیلئے	15	۱۱۔ برائے حبس بول
28	۵۔ خون حقیق کم کرنے کیلئے	15	۱۲۔ برائے آنکھ درد
28	۶۔ آیام کی بے ترتیبی/زیادتی	16,15	۱۳۔ برائے خارش و الرجی
28	۷۔ یسکوریا	16	۱۴۔ برائے بھکی
29	۸۔ دودھ کی کمی دور	17	۱۵۔ برائے درد گردہ
29,30	۹۔ پستان میں درد	17	۱۶۔ برائے فالج، لقوہ
30	۱۰۔ بچے کا سکوڑا پن	17	۱۷۔ جسمانی درد
30,31	۱۱۔ بچے کا رونا/ڈرنا	17	۱۸۔ رقیہ برائے فالج
31,33	۱۲۔ برائے دفع نظربد	18	۱۹۔ تعویذ اسم ذات
33,34	۴۔ رزق کی ترقی اور فراخی	18	۲۰۔ تعویذ پسندریا
35	۱۔ برائے فراخی رزق	18	۲۱۔ برائے ہر مرض
35	۲۔ ادائے قرض و حصول فنا	19	۲۲۔ تعویذ خواجہ قطب الدین
36,37	۳۔ لٹائش رزق	19	۲۳۔ برائے احتلام
		19	۲۴۔ مرد/زن پر قادر نہ ہو

- 54 ۱۔ برائے ہلاکی دشمن
54 ۲۔ برائے جدائی
55 ۳۔ برائے دشمنی
57 ۴۔ برائے زبان بندی
59 ۵۔ جابر حاکم مہربان ہو
59 ۶۔ دشمنوں کے شر سے بچنا

۱۰۔ مختلف اور متفرق کاموں کے لئے

- 59 ۱۔ کھانے میں زیادتی برکت کیلئے
60 ۲۔ گمشدہ چیز کے لئے
60 ۳۔ گم شدہ آدمی یا مال و متاع
60 ۴۔ برائے ملاقات مسافر
61 ۵۔ برائے زیادتی مسلم
61 ۶۔ دودھ سے زیادہ مکھن نکالنا
61 ۷۔ باؤلے کتے کے کالے کا علاج
62 ۸۔ برائے زہر بھڑا، بچھو وغیرہ
62 ۹۔ گائے وغیرہ حاملہ نہ ہوتی ہو
62 ۱۰۔ گائے وغیرہ دودھ نہ دے
62 ۱۱۔ برائے قرعہ اندازی
63 ۱۲۔ برائے تیغ بندی
63 ۱۳۔ مکان کی حفاظت
64 ۱۴۔ حفاظت از تیر و تفنگ
64 ۱۵۔ برائے ہر کام
65 ۱۶۔ حافظہ کی زیادتی کے لئے
65 ۱۷۔ بھاگے ہوئے کو واپس لانا
65 ۱۸۔ مفرور کی واپسی
66 ۱۹۔ مدرسہ سے بھاگنے والا بچہ
66 ۲۰۔ برائے مفرور

۵۔ برائے قضائے حاجات

- 37 ۱۔ برائے کٹائش ظہری و باطنی
37 ۲۔ برائے حاجت روائی
39 ۳۔ برائے ہر مقصد
39 ۴۔ برائے ہر نوع مہمات
40 ۶۔ برائے تجارت و سوداگری
40 ۱۔ اشیاء کی خرید و فروخت
41 ۲۔ دکان کی ترقی

۷۔ برائے حفاظت از جادو، آسید، جن پری وغیرہ

- ۱۔ تعویذ حضرت علی کرم اللہ
۲۔ برائے حفاظت سیلاب جادو
۳۔ تعویذ اسم باسط
۴۔ اسماء اصحاب کہف
۵۔ حفاظت مال و جان
۶۔ برائے دفع سحر
۷۔ تعویذ نفسی اثبات
۸۔ مشکلات کو رفع کرنا
۹۔ حفاظت از دشمنان
۱۰۔ تعویذ برائے جن
۱۱۔ نقش سورہ اخلاص

۸۔ برائے محبت و پیار

- 48 ۱۔ برائے حب
49 ۲۔ برائے تسخیر خلائق
49 ۳۔ برائے حب زن و شوہر
52 ۴۔ برائے محبت و تسخیر

۹۔ برائے عدوت دشمنی، جدائی

اور زبان بندی

۱۱۔ استخارہ
۱۔ استخارہ کے مختلف طریقے

- ۲۱۔ ہر مقصد میں کامیابی کیلئے
۶۷ رات کو حسب خواہش جاگن
۶۷
۲۲۔ چہرے پر تے / مونہ کے
۶۷
۲۳۔ خیر و برکت / کامیابی کیلئے
۶۹
۲۴۔ برائے زیارت حضور نبی کریم
۷۰
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

عمل کرنے / تعویذ لکھنے والے کیلئے شرائط

- عمل کرنے یا تعویذ لکھنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ ان قواعد و شرائط پر مکمل عمل پیرا ہو ورنہ اس کی محنت ضائع ہو جاتی گی اور فائدہ بھی نہیں ہوگا۔
- ① تعویذات لکھنے کے لیے اپنے پیرومرشد سے اجازت حاصل کرے۔
 - ② حلال روزی کما کر کھائے، نیک اعمال پر کاربند ہو۔
 - ③ جب کوئی تعویذ لکھے یا عمل پڑھے تو با وضو ہو۔
 - ④ اپنی نیت صاف رکھے۔ شیطانی خیالات سے پرہیز کرے۔ اللہ پاک کی رحمت اور فضل کا طالب رہے۔
 - ⑤ محبت کے لیے عروج ماہ میں جمعرات یا جمعہ کے دن مشتری یا زہرہ کی ساعت میں عمل پڑھے یا تعویذ لکھے۔
 - ⑥ عداوت و دشمنی کیلئے عمل زوال ماہ میں ہفتہ یا منگل کے دن زحل یا مریخ کی ساعت میں کرے۔
 - ⑦ عمل پڑھنا ہو تو ایک جگہ مقرر کرے۔ جاٹے نماز بھی خاص ہو۔ جگہ بدلنے سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔
 - ⑧ کوئی بھی عمل یا تعویذ ناجائز کام کیلئے ہرگز نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔
 - ⑨ محبت کا تعویذ اگر زن و شوہر کیلئے ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہو تو حرام ہے۔ کتب شرعیہ خصوصاً "احیاء العلوم" (ام غزالی) میں تفصیل موجود ہے۔ اور عداوت کے تعویذ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قطعی حرام ہے۔ (سرکار اخذ زادہ مبارک)۔

امراضِ بدن

برائے بخار | مندرجہ ذیل آیات لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔

كَهَيَّعَصَ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا ۝
 اِذْ نَادَى نِدَاءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ
 مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ
 رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَ
 اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝

اور یہ تعویذ پینے کیلئے دیں۔ روزانہ تین عدد تین یا سات دن تک۔

یا محیی اللہ اللہ
 اللہ

برائے بخار | بخار والے مریض کو لکھ کر دیں۔ عورت بائیں بازو پر جبکہ مرد
 دائیں بازو پر باندھے۔ گلے میں بھی ڈالا جاسکتا ہے۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ
 اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ
 حَرِّ النَّارِ اللّٰهُ شَافِي

برائے بخار | جس شخص کو بخار کے ساتھ
 سردی بھی معلوم ہوتی ہو

یہ نقش لکھ کر اسکے بازو پر باندھے انشاء اللہ
 بخار اور جاڑا جاتا رہے گا۔

۷۸۶

۵۶۷	۵۶۲	۵۶۹
۵۶۸	۵۶۶	۵۶۴
۵۶۳	۵۷۰	۵۶۵

برائے پرانا بخار | جس شخص کو بخار آ رہا ہو، اور کسی طرح نہ اترتا ہو تو اتوار کے دن سات دھاگے نیلے رنگ کے کچے سوت کے اتنے لمبے کر مریض کے گلے میں باندھ دیا جائے۔ اس سوت پر سات گرہیں لگاتے۔ ہر گرہ پر ایک بار بسم اللہ شریف، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر دم کرے۔ یہ گنڈا مریض کے گلے میں باندھ دیں۔ انشاء اللہ شفا پائے گا۔

برائے بخار ہر قسم | ہر قسم کے بخار کے لیے یہ تعویذ لکھ کر مریض کے گلے میں پنا دیں۔

یا آدم	یا حوا	یا علی	یا فاطمہ
یا محمد	یا عائشہ	یا یوسف	یا زینب
یا صدیق	یا عمر	یا عثمان	یا علی
یا جبریل	یا میکائیل	یا اسرافیل	یا عزرائیل

برائے درد سر | یہ لکھ کر سر پر باندھیں۔

یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ

برائے سرور و پورے سر کے درد کیلئے یہ تعویذ لکھ کر سر پر باندھیں۔

۷۸۶


یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح

برائے سرور و آدھے سر کے درد کیلئے یہ تعویذ درو والے حصے پر باندھیں۔

۷۸۶

یا محمد	یا محمد	یا محمد
یا محمد	یا محمد	یا محمد
یا محمد	یا محمد	یا محمد

برائے سرور و آدھے سر کے درد کیلئے یہ تعویذ لکھ کر باندھیں۔



برائے پیٹ درد | یہ تعویذ لکھ کر پائیں۔

۷۸۶

یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ

برائے ورد دل | یہ تعویذ دو عدد لکھیں ایک گلے میں ڈال دیں دوسرا پائیں۔

۷۸۶

۳	۱۲	۱۵	۱
۹	۷	۶	۱۲
۵	۱۱	۱۰	۸
۱۶	۲	۳	۱۳

ح

سج

برائے دل کی گھبراہٹ | جس شخص کو اختلاج قلب یا دل کی گھبراہٹ کی شکایت ہو تو یہ لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالے

کہ تعویذ دل تک آجاتے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِیْنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ اَلَا یَذٰکُرُ اللّٰهُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ


یا اللہ یا اللہ یا اللہ
ہول دل دفع شود

برائے پیٹ ورد | یہ دعا لکھ کر دھو کر پلائیں درد شکم فوراً ختم ہو جائے۔
مغرب ہے۔

اللهم انت الباسط وانا المبسوط فمن بداع المبسوط
الا الباسط يا الله يا الله يا الله

برائے گھبراہٹ دل | اختلاج قلب یا دل کے درد کیلئے کسی صاف
برتن پر تین بار آیت الکرسی لکھیں۔ صاف پانی
سے دھو کر پلائیں نیز درد جگر یا پیٹ میں مروڑاٹھیں تب بھی یہی پلائیں۔

برائے دانت درد | یہ تعویذ دانتوں کے درمیان رکھیں۔



برائے دانت درد | یہ تعویذ دانتوں کے درمیان رکھیں۔



برائے بوا سیر | جمعہ یا پیر کے دن یہ عزیمت لکھ کر کمر میں باندھیں۔
تعویذ پشت پر ہے۔


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 کُلِّ صَرِيحٍ وَمَكْرُوبٍ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰی خَيْرِ
 خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ۝

برائے بوا سیر | بوا سیر کے مریض کو چاہیے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھے۔
 پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح اور
 دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد الم ترکیف پڑھے۔ سلام کے بعد شروعی بارکے۔
 اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ رَبِّيْ۔
 جب تک شکایت باقی رہے ہر روز پڑھتا رہے۔ شفا ہونے پر
 چھوڑ دے۔

برائے بوا سیر | پیر یا جمعہ کے دن بعد نماز فجر یہ نقش لکھ کر مریض کی کمر پر
 اس طرح باندھے کہ پشت کی طرف رہے۔ انشاء اللہ
 مریض شفا یاب ہوگا۔

۷۸۶

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵



برائے یرقان | یہ تعویذ لکھ کر
 یرقان والے
 مریض کے گلے میں باندھیں۔

برائے مرگی یہ آیات و حروف مقطعات لکھ کر تانبے کے تعویذ میں بند کر کے مریض کے گلے میں ڈالیں۔


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 النَّصَّ طَسَّ كَهَيْعَصَ۔ لیسَ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ○
 حَمَّسَقَنَّ وَالْقَلَمُ وَمَا یَسْطُرُونَ ○

اور اس کو پڑھ کر سات روز تک مریض کے بائیں کان میں دم کرتے رہیں۔
 انشاء اللہ شفا ہوگی۔


۷۸۶

۸	۳	۱
۹	۷	۵
۲	۱۱	۶

برائے مرگی یہ نقش لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں۔
 انشاء اللہ شفا ہوگی۔




برائے ناف یہ تعویذ لکھ کر مریض کے دائیں بازو پر باندھیں۔



برائے ناف ناف تک لٹکائیں دائرے کے گرد گیارہ نصف دائرے ہوں۔

برائے نواف | دائرے کے گرد یا ہو
کا لفظ تیرہ بار لکھیں



لکھ کر نواف پر باندھیں۔ جب ٹھیک ہو جائے
تو فوراً اتار دیں۔

برائے نواف | دائرہ کے گرد محمد
کا لفظ تیرہ بار لکھیں



اور نواف پر باندھیں۔

اذلجاء	نصر اللہ	والفتح	ورایت
الناس	یدخلون	فی	دین
اللہ	افولجا	فسبح	بحمد
ربک	واستغفر	انہ	کان
توابا	یاغفور	یا شافی	یا کافی

برائے نواف | یہ نقش مکرم
لکھ کر کمر پر
باندھیں مگر اس طرح کہ تعویذ نواف
کے اوپر رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
شفا ہوگی۔

برائے نواف | یہ نقش لکھ کر مریض کے دائیں بازو پر باندھیں۔ ان
شاء اللہ نواف اپنے مقام پر آجائے گی۔

یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا رحمن
یا اللہ یا رحمن	مریض کا نام مع نام والدہ	یا اللہ یا رحمن
یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا رحمن

برائے گویا نجنی | بیری کے سات سبز پتے لیں اور ایک بانس کی تیلی
 اسی تیلی لیں۔ ایک پتے پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 پڑھ کر دم کریں۔ اس پتے کو پھنسی سے مَس کر کے تیلی میں پرو لیں۔ اسی طرح
 ساتوں پتوں پر بسم اللہ پڑھ کر مَس کر کے تیلی میں پرو لیں۔ اس تیلی کو کسی اونچی جگہ
 دیوار وغیرہ میں گاڑ دیں۔ انشاء اللہ ایک دو دن میں آرام آجائیگا۔

برائے جس بول یعنی پیشاب بند ہو جانا | اگر کسی کا پیشاب
 بند ہو جائے تو
 چینی کی پلیٹ پر لکھ کر یہ آیت پانی سے دھو کر پلا نہیں۔ ان شاء اللہ پیشاب
 کھل جائے گا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ الْمَوْتَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ
 الْحَجَرَ فَانْفَجَرْتُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ
 كُلُّ إِنْسَانٍ مِّمَّ يَشْرِبُ مِنْهُ ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ
 وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

دیگر برائے جس بول | یہ آیت دو کاغذوں پر لکھیں ایک گلے میں
 بطور تعویذ ڈالیں اور دوسرا پانی میں گھول
 کر بلا دیں۔ انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے لیے بھی مفید ہے۔

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
 مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبَهَا
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

آنکھیں دکھنا | جس کی آنکھیں دکھتی ہوں تو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد
 اس آیت مبارکہ کو سات بار پڑھ کر انگوٹھوں پر دم کر کے

دونوں آنکھوں کو لگائے۔ اول تا آخر تین بار درود شریف بھی پڑھے۔ دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور تندرست آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی اور نظر کی کمزوری بھی دور ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝



آنکھ کا درد | یہ نقش آنکھ

کے درد کیلئے مجرب ہے۔

برائے خارش

اس نقش کو پانی میں

ڈال کر غسل کریں۔

*	*	*	*
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
۷۵۶	۷۵۶	۷۵۶	۷۵۶
*	*	*	*

یہ تعویذ پینے اور نہانے کے لیے
دیں مگر نہانے والے پر ۷۸۶ نہ

پر قسم کی الربی جلدی بیماری

۷۸۶

ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل

لکھیں۔ دن میں جتنی مرتبہ نہانا ہوا اتنے تعویذ
استعمال کریں۔ کم از کم تین دن اور زیادہ
سے زیادہ اکتالیس دن تک استعمال
کرائیں۔

برائے سحلی | یہ آیت مبارکہ پانی پر دم کر کے پلائیں یا پلیٹ پر زردہ رنگ سے لکھ کر پلائیں۔ کم از کم تین بار۔

وَيَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ك م ن ق هـ

الملك القدوس الرحمن الرحيم

٤٩٥ ٤٩٥ ٤٩٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رمیہ فرق الحام

٤٩ - ١١ - ١٩ - ٢٤ - ٣١ - ٣١

برائے درد گردہ | نقشب
اتالیس روز

تک نہار منہ روزانہ پلائیں۔

برائے فالج لقوقہ | نقشب
پیشوں پر زعفران

سے لکھ کر پلائیں اور موٹے کاغذ پر لکھ کر مفلوج حصے پر اس نقش کو پھیریں۔

جسم کے کسی حصے میں درد ہو | یہ دونوں آیات سات بار پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں پھونک

ماریں مگر یہ خیال رہے کہ پڑھتے ہوئے آپ کی آواز مریض نہ سنے۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

أَنْقَالَهَا ۝

رقیہ برائے فالج | بِسْمِ اللَّهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَا جَبْرِيْلُ
بِحَقِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللَّهُ الصَّمَدُ يَا مِيكَائِيلُ

بِحَقِّ أَحْطَمُ فَوْشٍ لَهْرِيْلِدُ وَلَهْرِيْلُ يَا إِسْرَائِيْلُ بِحَقِّ أَخْطَشِ

ط وَلَهْرِيْلُ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا عِزْرَائِيْلُ بِحَقِّ رِحْلِهِ

وَرِحْلِعِي وَأَنْتِ أَمِنْ الْمُتَخَلِّفِيْنَ فُلِقْ مُلِقٌ فِي قَلْوْبِهِ مُلِقٌ ۝

سات بار پڑھ کر کورا کپڑے کے اوپر سے جھاڑیں اور سات

بار جھاڑیں۔ نیز اسی عبارت کو پڑھ کر تیل پر دم کریں۔ اور مالش کرائیں۔

ابے چند ایسے تعویذات تحریر کیے جاتے ہیں، جو ہر مرض کے لئے مفید ہیں۔

۷۸۶

۱۶	۱۹	۲۲	۹
۲۱	۱۰	۱۵	۲۰
۱۱	۲۴	۱۷	۱۴
۱۸	۱۳	۱۲	۲۳

(ا) تعویذ اسم ذات یہ تعویذ لکھ کر

گلے میں پہنائیں اور مرض کی شدت کے مطابق پینے کو بھی دیں۔

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

یا اللہ ۱۲ ۱۲ ۱۲
الی اللہ ۱۲ ۱۲ ۱۲

(ب) تعویذ پندریا یہ تعویذ ہر مرض کے لیے دیا

جاتا ہے۔

(ج) برائے ہر مرض

یہ تعویذ لکھ کر پلائیں۔

یا مشکشا	یا مشکشا	یا مشکشا	یا مشکشا
یا مشکشا	یا مشکشا	یا مشکشا	یا مشکشا
یا مشکشا	یا مشکشا	یا مشکشا	یا مشکشا
یا مشکشا	یا مشکشا	یا مشکشا	یا مشکشا

(د) **تعویذ خواجہ قطب الدین** | یہ تعویذ بھی ہر مرض کے لیے دیا جاتا ہے۔

کشتگان	مخجر	تسلیم را	ہر زمان
مخجر	تسلیم را	ہر زمان	از غیب
تسلیم را	ہر زمان	از غیب	جان
ہر زمان	از غیب	جان	دیگر

برائے احتلام | جس شخص کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہو، تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت اپنے پیٹ پر عس لکھے مگر اس طرح کہ اس کی م ناف کے اوپر آئے۔ ہر روز ایسا کرے انشاء اللہ احتلام نہیں ہوگا۔

کوئی مرد سحر کے اثر سے زن پر قادر نہ ہو | درج ذیل آیات لکھ کر قاصر مرد کے گلے میں بطور تعویذ ڈالیں۔ ان شاء اللہ ہر طرح کا بُرا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ عورت پر قادر ہوگا۔

اولمیر الذین کفروا ان السہوت والارض
 کانتا تقافتقنہما وجعلنا من الماء کل
 شئی حیۃ ا فلا یؤمنون ○ باطل باطل باطل
 فغلبوا هنا لک وانقلبوا صاغرین ○ قال موسیٰ
 ما جئتو بہ السحر ان اللہ سبطلہ ان اللہ
 لا یصلح عمل المفسدین ○ وقل جا الحق

و زهق الباطل ۛ ان الباطل كان زهوقا ۝

اس کے بعد آخری تینوں قل شریف کی سورتیں۔

مایوس مرض | کسی قسم کے جادو کا اثر ہو یا مرض کی بیماری سے معالج عاجز ہو گئے ہوں تو یہ کلمات چینی کی پلیٹ پر لکھ کر دھو کر چالیس روز پلائیں۔ انشاء اللہ صحت ہوگی۔

يَا حَيُّ حَيِّنْ لَا حَيِّ فِيْ وَ يَوْمَ مَلِكِهِ وَ بَقَايَةِ يَا حَيُّ

اس کے آگے بسم اللہ شریف اور سورہ فاتحہ۔

برائے زوال شہوت | اگر کسی کو شہوت بہت ستانی ہو کہ گناہ پر آمادہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کے جن ناموں

میں "ی" آتی ہے مثلاً حکیم، جلیل، وزیر وغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھ کر سات دن تک صبح نہار منہ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پلائیں۔

برائے جماع پر قدرت | اگر کسی مرد کو جادو یا کسی اور وجہ سے جماع پر قدرت نہ ہو، تو اس کو درج ذیل عبارات

چینی کی طشتری پر لکھ کر (گلاب و زعفران سے) دھو کر پلائیں۔ یہ عبارات بدھ، جمعرات اور جمعہ کو لکھی جائیں اور مشتری کی ساعت میں۔ بدھ کو سورج نکلنے کے بعد چوتھا گھنٹہ جمعرات کو سورج نکلنے کے بعد پہلا گھنٹہ اور جمعہ کو پانچواں گھنٹہ۔ نہایت مجرب ہے۔ پہلے روز یہ عبارت لکھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ كَهَيْعَتِ يٰ حَيُّ يٰ قَيُّوْمُ
وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ اَجْمَعِيْنَ اَللّٰهُ
يَحْرَمُهُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ
اَنْ تُعَافِيَنِيْ مِنْ الْعَنَةِ وَ تُقَدِّرَ لِيْ عَلٰى الْجَمَاعِ

الْحَلِيلَةَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ -
دوسرے روزیہ عبارت لکھے ۔

خَمَعَسَقَ يَا صَمَدًا يَا فَرْدًا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
أَنْ تَعَافِيَنِي مِنَ الْعُنَّةِ وَتَقْدِّرُنِي عَلَى الْجَمَاعِ وَ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ -

تیسرے روزیہ عبارت لکھے ۔

كَهَيْعَصَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا أَحَدًا يَا فَرْدًا أَنْ تَعَافِيَنِي
مِنَ الْعُنَّةِ وَتَقْدِّرُنِي عَلَى الْجَمَاعِ وَصَلَّى اللهُ
تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ -

ان شاء اللہ تعالیٰ عورت پر قادر ہوگا ۔

برائے امساک | یہ تعویذ لکھ کر
دانتوں کے

نیچے دبا کر رکھیں جب تک دانتوں
کے نیچے دبا رہیگا۔ انزال نہیں ہوگا۔

برائے امساک | یہ نقش لکھ کر موم جامہ کر کے مرد اپنی زبان کے

و	ن	ن	ما
ما	د	د	ص
س	و	ی	ع
م	ن	ه	ع

نیچے رکھے یا اپنی کمر پر
باندھ لے مجرب ہے۔

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

یا شافی

برائے ہر مقصد کے علاوہ یہ تعویذ بیماری

ہر مقصد کے لیے مفید ہے جب

ضرورت یا شافی کی جگہ مناسب اسم

باری تعالیٰ لکھیں۔ اکیس عدد تعویذ لکھیں اور ہر روز ایک پلائیں۔

آیاتِ شفا قرآن پاک کی درج ذیل آیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیاتِ شفا قرار فرمایا ہے جو مریض علاج کر کر یا یوس

ہو گیا ہو یا بیماری کا پتہ نہ چلتا ہو چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پلائیں۔ خدا کے فضل و کرم سے شفا یاب ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَیَشْفِ صُدْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ
وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ فِیْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ مَا هُوَ
شِفَآءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
یَشْفِیْنِیْ ۗ قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اٰمَنُوْا هُدٰی وَ شِفَآءٌ ۗ

جب کوئی علاج موثر نہ ہو کسی بھی مریض کو جب کوئی علاج کام نہ دے طبیب عاجز آجائیں تو درج

ذیل بارش کے پانی پر دم کر کے مریض کو چند روز پلائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

- ① نفی اثبات ایک ہزار مرتبہ
- ② سورۃ فاتحہ ستر (۷۰) مرتبہ
- ③ آیت الکرسی ستر (۷۰) مرتبہ
- ④ سورہ اخلاص ستر (۷۰) مرتبہ

⑤ سورہ الفلق..... ستر (۷۰) مرتبہ

⑥ سورہ الناس..... ستر (۷۰) مرتبہ

ہر بیماری کا علاج جس سے اطبا عاجز آجائیں | بسم اللہ کے ساتھ
سورہ الکافرون

ایک ہزار ایک بار پڑھ کر سرسوں کے تیل پر دم کر کے بوتل میں رکھیں۔ جب
کوئی مرض آئے تو ذرا سا تیل دے دیں۔ مرض رات کو ایک قطرہ کان میں ڈالے
درود والی جگہ ماش کرے۔ ہر قسم کی تکلیف رفع ہوگی۔ ڈراؤنی خواہیں بند ہو
جائیں گی۔ آسیب کا خطرہ ٹل جائے گا۔ جو دوا پہلے اثر نہیں کرتی تھی اس سے
کرنے لگے گی۔

امراض بابت مستورات و اطفال

۱۶	۱۹	۲۲	۹
۲۱	۱۰	۱۵	۲۰
۱۱	۲۴	۱۷	۱۴
۱۸	۱۳	۱۲	۲۳

برائے حمل | تین پاؤ توڑی لے کر
تین روز پانی میں

ابالیں۔ اس پانی میں سے ٹھوڑا سا
عورت پی لے اور باقی پانی سے غسل
کرے۔ غسل کرتے وقت اس تعویذ

کا پانی بھی شامل کرے۔ اس کے بعد درج ذیل
تعویذ کو بند کر کے موسم جامہ کر کے گلے میں لٹکائے تاکہ
ناف تک آجائے۔ ولادت کے وقت اس تعویذ
کو اتار دے۔

یا محیط ۲۰۰	یا محیط ۱۰۰
یا خالق ۱۰۰۰	یا محیط ۳۰۰
یا وارث ۱۰۰۰	

۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

برائے حمل | یہ تعویذ لکھ کر زبان کے نیچے رکھ کر مصروف و طیفہ ہوں اللہ پاک کی رحمت سے بانجھ بھی حاملہ ہو جائے گی۔

برائے حمل | عقیقہ یا بانجھ عورت کے لیے یہ تعویذ لکھیں۔ بہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب سے یہ آیت لکھیں۔

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سِيَّرْتُ بِهٖ الْجِبَالَ اَوْ قَطَعْتُ بِهٖ الْاَرْضُ
اَوْ كَلِمَةً بِهٖ الْمَوْتٰى بَلُّ يَلٰهٖ الْاَمْرُ حَبِيْبًا ۝

یہ تعویذ گردن میں باندھیں۔ علاوہ ازیں چالیس عدد لونگ لیں۔ ہر لونگ پر سات سات بار یہی آیت پڑھیں۔ حیض کے غسل کے بعد ہر روز ایک لونگ کھائے اس دوران و طیفہ زوجیت بھی جاری رکھیں۔

برائے حمل | درج ذیل عبارت تعویذ بنا کر عقیقہ عورت کے گلے میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ اسی بیٹے حاملہ ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هو هو هو هو هو هو
الله الله الله الله الله الله
حتي حتي حتي حتي حتي حتي
قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمدیا و آلہ واصحابہ اجمعین

اولاد نہ ہونا | اکتالیس عدد لونگ لیں با وضو ہو کر یہ آیت ہر لونگ

پر سات سات بار پڑھ کر دم کریں۔

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي يَعُشْنَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
إِذَا أَخْرَجَ يَدَاهُ لَهَا يَبْكَدُ بِرِهَاطٍ وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ○ (سورہ نور آیت ۴۰)

رات سوتے وقت دونوں میاں بیوی ایک ایک لونگ کھائیں اور پانی نہ
پئیں۔ ماہواری سے پاک ہو کر یہ عمل شروع کریں اور روزانہ مشغول وظیفہ ہوں۔
اللہ پاک کے حکم سے حمل ہوگا۔

قرآن پاک کی یہ آیات بعد نماز عشاء سومرتیہ عورت پڑھ کر
اولاد نہ ہونا | پانی پر دم کرے۔ خود بھی پیئے اور شوہر کو بھی پلائے۔ یہ عمل
نوٹے دن تک کیا جائے۔ ناعنہ کے دن شمار کر کے بعد میں پورے کریں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ ○ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ الْرَبُّكَ آيَاتُ
الْكِتَابِ الْمُبِينِ ○

برائے فرزند نرینہ | یہ آیت مبارکہ اتوار یا جمعہ کے دن با وضو ہو کر
لکھ کر حاملہ کو گلے میں پہنا دیں اس طرح کہ
تعویذ ناف پر رہے۔ ان شاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

إِنَّا نَبِّئُكَ بِغَلَامٍ مِّنْ أَسْمِهِ يَحْيَى لَوْ جَعَلْنَاهُ مِنْ
قَبْلُ سَمِيًّا ○

برائے فرزند نرینہ | حمل کے تیسرے ماہ میں حاملہ سوتی ہو یا لیٹ
ہو تو غاوند با وضو ہو کر حاملہ کی ناف پر ہاتھ

رکھ کر یہ دعائیں بار پڑھ کر دم کرے۔ ان شاء اللہ فرزند پیدا ہوگا۔ پیدائش کے بعد ایسا نام رکھیں جس میں محمد آئے۔

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ خَلَقْتَ خَلْقًا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْءَةِ
فَكُونُهُ ذَكَرًا وَأَسْمِيهِ مُحَمَّدًا بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ○

برائے پیدائش فرزند صالح | یہ تعویذ لکھ کر حاملہ کے گلے
میں ڈالیں۔ اللہ پاک اپنے

کرم سے فرزند صالح
عطا کرے گا۔

۶۸۶

۸۱۲	۸۱۵	۱۸۸	۸۵
۸۱۷	۸۶	۸۱۱	۸۱۶
۸۷	۸۲۰	۸۱۳	۸۱
۸۱۴	۸۰۹	۸۸	۸۱۹

برائے فرزند نرینہ | عورت کے حاملہ ہونے پر اس کا خاوند
اس کے پیٹ پر انگلی سے گول دائرہ بنا
ساتھ ہی یا ہتین کے یہ عمل ستر بار کرے چند دن ایسا کرتا رہے۔

برائے فرزند نرینہ | نرینہ اولاد پھیلے حمل کے تین مہینے گزرنے
سے پہلے ہرن کی جھلی پر درج ذیل تین آیات
لکھیں اور حاملہ کو پناہ دے تا وضع حمل پہنچے رہے۔

① اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الرَّجَاؤُ
وَمَا تَذَرُ أَذًا كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالَى -

② يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ سُمِّيَهُ يَحْيَى لَهَا
نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا -

③ بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيسَى ابْنًا صَالِحًا طَوِيلَ الْعُمُرِ
بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ -

ولادت میں آسانی کاغذ پر یہ آیات لکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر
عورت کی بائیں ران میں باندھیں۔ حکم خدا جلد
جنے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ○
وَ اِذْ نَتُّ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ ○ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ○
وَ اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ ○ وَ اِذْ نَتُّ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ ○

ولادت میں آسانی سورہ اخلاص کو پانچ بار لکھ کر دیں یا کسی چیز پر
دم کر کے کھلا دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ^{فَاصْبِرْ} کَمَا صَبَرَ
اُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ
لَهُمْ كَانَتْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَوْ يَلْبِثُونَ اِلَّا سَاعَةً
مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغْ فَمَلَّ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الْفٰسِقُونَ ○ لکھ کر حاملہ
کی بائیں ران کے ساتھ باندھیں۔

ولادت میں آسانی

① مرا جاشد خرم را نیز جاشد

زن و بہقان زائید یا نہ زائید
دہانی شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی

گڑ پر دم کر کے کھلائیں یا دائیں ران پر باندھیں۔ مگر اس وقت
جب دروزہ شروع ہو۔

یا (۲) لکھ کر حاملہ کی دائیں ران پر
باندھیں۔ مگر جب تک دروزہ شروع نہ ہو ہرگز نہ باندھیں۔

۱۶	۲۱	۲۴	۱۰
۲۳	۱۱	۱۶	۲۲
۱۲	۲۶	۱۹	۱۵
۲۰	۱۴	۱۳	۲۵

خونِ حیض کھولنے کیلئے

ان دونوں نقوش میں
سے کوئی ایک لکھ کر مریضہ کو
پلائیں اور گلے میں بھی باندھیں
بند حیض کھل جائے گا۔
تعویذ ناف تک آئے۔

۲۲۲	صل ۲
ماض	مالوسہ
ماللہ	ماللہ

خونِ حیض کم کرنے کیلئے جس عورت کو خونِ حیض و نفاس بہت
زیادہ آتا ہو یہ نقش ہرن کی جھلی پر

۲۰۲	۲۰۲	۷۵
۱۵	۴۰۱	۴۵۲
۵۲۷	یا قابض	۳۷۳

لکھ کر عورت کی دائیں ران پر باندھیں۔
انشاء اللہ خون رُک جائے گا۔

ایام کی زیادتی روکنے کیلئے | یہ تعویذ زرد روشنائی سے لکھ کر عورت کے گلے میں ڈالیں۔

زیادہ شدت یا زور ہو تو تین دن ایک ایک تعویذ صبح نہار منہ پلائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ يَا عَجَابُ الْخَفَا وَ
يَا وِرَاءَ الْخَلْقِ ۝

ایام کی بے ترتیبی | یہ تعویذ لکھ کر اسے موم جامہ کر لیں اور اسے کسی کپڑے وغیرہ کی بجائے صرف بینگنی یا جامنی رنگ کے دھاگے

میں باندھیں۔

ح	س	م	ط
ح	ط	ک	م
ح	م	ط	ک

۱۔ ایام کی بے ترتیبی میں اگر کمر میں درد ہو تو پشت پر اس طرح باندھیں کہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری جوڑے سے چھوٹا رہے۔

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۲۔ اگر نلوں میں تکلیف ہو تو تعویذ ناف کے اوپر باندھیں۔ نہاتے وقت بھی تعویذ الگ نہ کریں۔

هُوَ الْأَمْرُ هِيَ عَمَّا نُوِيلُ
بِحَقِّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
يَا بَارِي الْمَصُوْرُ الْأَرْحَامُ

لیکھو رپا | یہ عبارت تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں اور چالیس روز تک روزانہ پلائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فِي ثَمَرَةِ رِزْقًا

دودھ کی کمی دور کرنا | یہ نقش چینی کی پلیٹوں پر لکھ کر زرد رنگ سے،

۹۹	۹۹	۹۹
۹۹	۹۹	۹۹
۹۹	۹۹	۹۹

صبح دوپہر شام پلائیں۔

دودھ بڑھانا | اول و آخر تین بار درود شریف اور سات بار یہ
آیت مبارکہ نمک لاہوری پر پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں
میں ملا کر استعمال کریں۔

مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

۷۸۶

۱۴۶۰	۱۴۶۱	۱۴۶۲	۱۴۶۳
۱۴۶۴	۱۴۶۵	۱۴۶۶	۱۴۶۷
۱۴۶۸	۱۴۶۹	۱۴۷۰	۱۴۷۱
۱۴۷۲	۱۴۷۳	۱۴۷۴	۱۴۷۵

دودھ بڑھانا | درج ذیل
نقش کو
تین دن تک با وضو لکھ کر پلائیں
ان شاء اللہ دودھ بڑھ جائیگا۔

۷۸۶

۱	۱۵	۱۲	۸
۱۳	۷	۲	۱۴
۶	۱۰	۱۶	۳
۱۶	۴	۵	۱۱

پستان میں درد | جس کے پستان
درد میں درد ہو، یہ
نقش لکھ کر مرہضہ کو سات روز تک
پلائیں اور گلے میں بھی باندھیں۔ تھوڑا
سا پانی سینے پر بھی ملیں اکیس ہے۔

۷۸۶

وی	ولا	ط
و	ھ	لا
ای	ق	مس

یہ اعلیٰ میں اعلیٰ

بچے کے سوکڑے کھیلے

نیلے رنگ کا بینگن لے کر اس
پر لکھیں اور جس جگہ بچہ سوتا ہو اسکے

یہ اعلیٰ لعل اعلیٰ غ یہ وب

اوپر چھت کے ساتھ لٹکا دیں۔ جیسے جیسے بنگین سوکھتا جائے گا بچہ تندرست ہوتا جائے گا۔

بچوں کا سوکڑا ختم کرنا یہ تعویذ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں اور نہانے کے لیے درج ذیل سات تعویذ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِحَقِّ لَیْلِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

یا اعطینک الوتر	یا عزیز	یا رحیم	یا اللہ
یا منان	یا دیان	یا دیع	یا شاکر
یا مستعان	یا شاقی	یا رحمن	یا شاکر

لکھیں۔ مگر یہ تعویذ اتوار اور منگل کو استعمال کریں۔

فرعون بے عون شد اوبے داو

قارن ملدن ابلین لعین نمرد مردو

بچے کو اس طرح نہلائیں کہ

اس کے نہانے کا پانی اس تعویذ پر

گرے۔ یہ پانی گندے نالے یا گٹر میں ڈالیں یا دفن کر دیں۔ دوسرے آدمیوں

کو اس پانی سے بچائیں۔

برائے مسان دیکھے کا سوکھا ہونا یہ چہل کاف کا نقش ہے۔

۷۸۶

۳۹۰۹	۳۹۰۴	۳۹۱۱
۳۹۱۰	۳۹۰۸	۳۹۰۶
۳۹۰۵	۳۹۱۲	۳۹۰۷

تعویذ بنا کر بوبان کی

دھونی دے کر بچے کے

گلے میں ڈالیں۔ انشاء اللہ

موتانا زہ ہو جائیگا۔

خواب میں ڈرنا / نیند نہ آنا یہ آیت پڑھ کر دم کریں یا لکھ کر پینے کو دیں یا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

خواب میں رونا درج ذیل لکھ کر گلے میں ڈالیں۔

ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی ہٹی

۷۸۶

یا نور	یا نور	یا نور
یا نور	یا نور	یا نور
یا نور	یا نور	یا نور

برائے گریہ کچھ یہ تعویذ لکھ کر

بچے کے گلے میں ڈالیں۔

بچے کا رونا اور مرض صبیان یہ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں بہت خوب ہے۔

الفی بحرمة یملیخا مکسلمینا کشفوط اذرفطیونس
کشا فطیونس تبیونس یوانس بوس کلہم قطیر۔

۷۸۶

۷	۶۶	۱۳	۸
۱۷	۲۶	۶۱	۳۳
۱۷	۱۳۶	۷۱	۱۲۳
۴	۹	۹	۱۲

بچے کا رونا دھونا

یہ نقش لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں۔ انشاء اللہ اس کا رونا بند ہو جائے گا۔

لا یرون فیہا شمساً ولا زہرہ ریرا

۷۸۶	یا بدوح	۷۸۶
یا بدوح	اللہ	یا بدوح
۷۸۶	یا بدوح	۷۸۶

برائے گریہ طفل جبر کچھ بہت روتا ہو یہ نقش پاک سیاہی سے لکھ کر اس کے گلے میں ڈالیں، انشاء اللہ

آرام آجائے گا۔

برائے گریہ طفل اور خواب میں ڈرنا جو بچہ سوتے ہوئے خواب میں ڈرے تو

یا محمد	یا محمد	یا محمد
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
یا محمد	یا محمد	یا محمد

یہ نقش لکھ کر اس کے گلے میں ڈالیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے رونا اور ڈرنا ختم ہو جائے گا۔

یا اللہ		یا اللہ	
محمد	یا جبریل	محمد	
ذوالجلال والاکرام			
ابوبکر صدیق	محمد علیہ السلام		
عثمان بن عفان	عمر بن خطاب		
علی ابن ابی طالب			

۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶

	یا غفور		
۱	۱	۸	
۲	۳	۵	۳
۲	۹	۲	
	یا غفور		

برائے نظر بد قسم

یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالیں اور پینے کے بھی دیں۔

برائے دفع نظر بد

گلاب و زعفران سے لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں۔ انشاء اللہ نظر بد دور ہوگی۔

ترقی رزق اور فراخی کلمے

فراخی رزق | نئے قمری ماہ کے پہلے بدھ کے دن شروع کریں سات دن دن تک مگر اس طرح کہ وقت اور جگہ معین ہو، اول و آخر درود شریف پانچ بار اور درمیان میں یہ کلمہ ایک ہزار بار پڑھیں۔
يَا رُقْتَمَا بَيْلُ بِحَقِّ يَا وَهَابُ پڑھ کر اللہ کریم سے دعا مانگیں۔
 خاص ہے۔

اولے قرض و حصول غنا | حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اتر جائے گا اور فراخی بھی نصیب ہوگی۔ ہر نماز کے بعد سات پڑھا کریں۔

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي
 بِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ۔

دوسری جگہ یہ بھی اضافی کلمے ہیں۔

اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ
 يَا كَرِيمُ اكْفِنِي۔

برائے ترقی رزق | نماز جمعہ کے بعد اول و آخر تین بار درود شریف پڑھ کر (۷۰) بار یہ دعاء پڑھے۔ اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو تونگر کر دے گا۔ بشرط یہ ہے کہ سلام کے بعد اسی طریقے سے بیٹھا رہے اور کوئی پہلو نہ بدے اور نہ

کسی طرف دیکھے، مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْمُعْجِزِ هُوَ اللّٰهُ ط

کشاہت رزق و حصول غنا | شرح تین بار الحمد شریف ایک

بار اور سورہ القدر گیارہ بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وافر رزق عطا فرمائے گا۔

ترقی رزق و ادائیگی قرض | یہ دعا ہر روز چاس مرتبہ پڑھیں۔ خواہ اکٹھے پڑھ

لیں خواہ ہر نماز کے بعد دس بار پڑھ لیا کریں۔


قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعْرِضُ مَنْ تَشَاءُ وَ
تُدْنِكُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ. تُوَلِّجُ الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ
فِي الْبَيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

يا رَحْمٰنِ الدّٰنِیَا وَالْآخِرَةِ یَعْطِیْ وَرَحِیْمِهَا تَعْطِی
مَنْ تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ فَاَقْضِ عَنِّیْ دِیْنِیْ یَا رَبَّنَا
وَرَبِّ الْعَالَمِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

برائے ترقی رزق | آخر نماز فجر سو بار اللہ الصمد پڑھا کریں۔ اول و
آخر گیارہ گیارہ اور و شریف بھی پڑھیں۔ قرض بھی

ادا ہوگا اور ان شاء اللہ رزق میں اضافہ ہوگا۔
 یہ نقش نوچندی جمعرات کو لکھیں لو بان کی دھونی سے
 برائے ترقی رزق کر خوشبو لگا کر بازو میں باندھیں۔



برائے قضائے حاجات

برائے کشائش ظاہری و باطنی ہر روز یا مغنی سو بار
 پڑھیں اور مسلسل پڑھتے

رہیں۔ نیز سورہ المنزل ہر روز گیارہ بار پڑھیں بہت مجرب ہے۔

برائے حاجت روائی جب کوئی حاجت درپیش ہو تو یا بَدِيعُ
 الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ یا بَدِيعُ سُوْبَارِ

بارہ دن تک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حاجت پوری دیگا۔

برائے حاجت روائی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی شخص
 حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ کر

اپنی حاجت چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

برائے حاجت ہمہ قسم | یہ نقش سورہ یسین شریف کا ہے۔ تمام
حاجات کیلئے تسریع التاثر ہے مثلاً حب
بغض۔ شفاً امراض۔ عالی مرتبہ اور دفع اثر زہر وغیرہ۔

۷۸۶

۵۳۹۱۳	۵۳۹۱۶	۵۳۹۱۹	۵۳۹۰۵
۵۳۹۱۸	۵۳۹۰۶	۵۳۹۱۲	۵۳۹۱۷
۵۳۹۰۷	۵۳۹۲۱	۵۳۹۱۴	۵۳۹۱۱
۵۳۹۱۵	۵۳۹۱۰	۵۳۹۰۸	۵۳۹۲۰

برائے حاجت | جو شخص بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو روزانہ
سات سو تاسی (۷۸۷) مرتبہ چالیس روز تک بعد
نماز فجر، بعد نماز عشاء اور بعد نماز تہجد پڑھے گا۔ ان شاء اللہ اس کی تمام
مشکلات حل ہوں گی۔ مگر اس کے لیے رزق حلال کے ساتھ تمام اوامرو
نواہی کی پابندی ضروری ہے۔ نیز دوران چلہ ترک جلالی بھی لازمی ہے۔

برائے حاجات دین و دنیا | یہ نقش اپنے گلے میں ڈالیں۔

۵	ح	ح	۴
۷	۴۱	۳	۴۱
۴۲	۱۰	۲۸	۲
۳۹	۱	۴۲	۹

محمد ۹۹

۷۸۶

۲۱۴۰۲	۲۱۴۰۵	۲۱۴۰۹	۲۱۳۹۵
۲۱۴۰۸	۲۱۳۹۶	۲۱۴۰۱	۲۱۴۰۶
۲۱۳۹۷	۲۱۴۱۱	۲۱۴۰۳	۲۱۴۰۰
۲۱۴۰۴	۲۱۳۹۹	۲۱۳۹۸	۲۱۴۱۰

برائے ہر مقصد

یہ نقش حزب البحر کا
ہے ہر کام کے واسطے
حزب ہے۔

لکھ کر بازو پر باندھے۔

اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے تمام
حاجات کیلئے مجرب ہے۔

برائے جملہ حاجات

۷۸۶

۱۸۲۰	۱۲	۲۸	۹۱	۱۶
۱۱۲	۱۲	۲۲	۹۳۰	۳۶
۲۲۰	یا بَاسِطًا اجب یا جبرئیل			۱۱۳

یا رَفِئًا تَمِیْلًا

یا مِیْمًا کَلَامًا

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

برائے ہر نوع مہمات

اگر کوئی شخص یا حی یا قیوم دو ہزار ایک
سو بائیس (۲۱۲۲) مرتبہ روزانہ سات روز

تک ایک ہی جلسے میں پڑھے تو اس کی تمام مہمات آسان ہو جائیں گی۔ مثلاً
بیماری۔ دل کی پریشانی۔ باغ میں پھل نہ آتے ہوں۔ گھر میں تنگی و پریشانی وغیرہ۔
اس دعا کا پڑھنے والا صاحب جمعیت ہو جائے گا۔ اور ان فلاس سے
محفوظ رہے گا۔



برائے تجارت و سوداگری

۷۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

اشیاء کی خرید و فروخت کیلئے

یہ دونوں تعویذ جمعہ یا اتوار کو لکھے
کوئی چیز فروخت کرنی ہو تو گلے میں

یا میکائل

۷۸۶

یا جبریل

باندھیں۔ اگر خریدنی
ہو تو دائیں بازو پر
باندھیں۔

نصر من	اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ	اللہ
یا رحمن	یا رحمن	یا رحمن	یا رحمن
اللہ الصمد	اللہ الصمد	اللہ الصمد	اللہ الصمد

یا عزیز

یا اسرائیل

برائے تجارت و سوداگری

سوداگری کیلئے بازو پر باندھے جبکہ

دکان کے لیے دکان کے
اندر چپکا دے۔
خوب ہے۔

محمد جالب	محمد جالب
-----------	-----------

دکان کی ترقی کے لیے | اگر دکان نہ چلتی ہو فائدہ اور بکری کم ہو تو
اس نقش کو لکھ کر گتے پر چپکا کر دکان کے اندر
لٹکا دے تاکہ حسرت بیدار کے سامنے رہے اور اس کو مشتری کی ساعت میں

لکھے مجرب ہے۔ انشاء اللہ خوب بکری ہوگی اور نفع بھی ہوگا۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰی
 قُرْبٰیةٍ وَهِيَ خَآوِیةٌ عَلٰی عُرُوْشِهَا یَحِقُّ الْقَوْدِیْحِقُّ
 حَمَّ كَهْفِیْعَصٍّ وَیَحِقُّ حَمَّسَقٍّ وَیَحِقُّ بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقش بھی مشتری کی ساعت میں لکھے یا موٹے
 قلم سے بڑا لکھ کر فریم کرالے۔ دکان یا مکان میں

دکان کی ترقی کیلئے

اس کو لٹکا دے تاکہ خریدار
 اور گھروالوں کو نظر آتا رہے
 ان شاء اللہ دکان کی بکری
 بڑھ جائے گی منافع کثیر ہوگا
 اگر جادو کا اثر ہوگا تب بھی
 ختم ہو جائے گا اور گھروالے

۷۸۶

یا اللہ	یا رَحْمٰنُ	یا الرَّحِیْمُ
یا مَالِكُ	یا رَزَاقُ	یا قَادِرُ
یا رَزَاقُ	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ	یا رَزَاقُ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ	یا رَزَاقُ	الْحَمْدُ لِلّٰهِ
یا رَزَاقُ	اللّٰهُ الصَّمَدُ	یا رَزَاقُ

بھی ہر طرح کی مصیبت، جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ اگر فریم کرانے تو چند
 دن بعد کپڑے سے صاف کرتا رہے۔

برائے حفاظت از جادو، آسیب، جِن پری وغیرہ


تعوید حضرت علی کرم اللہ وجہہ

روایت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین

۷۷۷۷۷۷۷۷

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے گا تو وہ جادو، بلا، آفات اور ہر مرض سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ عزت و آبرو پائے گا۔ فتوحات غیبی اور فیوضات لاریبی پائے گا۔

برائے حفاظت سیلاب، جادو اور محبت کے
یہ نقش لکھیں جادو
کیسے گلے میں ڈالیں



اور پلائیں محبت کے
یہ محبوب کو پلائیں
یا اپنے پاس رکھیں
سیلاب کے لیے لکھ کر
پانی میں ڈال دیں۔

۷۸۶

۱۰	۲۴	۲۱	۱۷
۲۲	۱۶	۱۱	۲۳
۱۵	۱۹	۲۶	۱۲
۲۵	۱۳	۱۷	۲۰

یا

تعویذ اسم باسط
بسم الله
الرحمن الرحيم
الرحمن - الرحيم - بسم - الله
الرحيم - الرحمن - الله - بسم
الله - بسم - الرحيم - الرحمن
والله غالب على امره

غالب - على - امره - ولكن - على - امره - ولكن - لا -
امرہ - ولكن - لا - تبصرون -

اپنے مقصد اور مدعا کے لحاظ سے اللہ پاک کے اسمائے حسنہ میں سے منتخب کر کے اوپر یا کے بعد لکھیں۔ مثلاً مرض کی شفا کیلئے یا شافی لکھیں۔ رزق کے لیے یا رزاق لکھیں۔ وغیرہ۔

اسماءِ اصحابِ کہف | یہ اسمائے ڈوبنے،

جلنے، غارت گری، ہر مرض، ہر آفت سے محفوظ رہنے کے بے حد مفید


ہیں۔

قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بِعِزَّتِهِمْ مَا

يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ اَللّٰهُ بِحِرْمَتِ يَمَلِيْنَا مَكْسَلِيْنَا مَشَلْنَا

مَرْنُوش دُوبَرْنُوش شَارْنُوش كَفْشَطِيْبُوش اسمِ كَلْبِمِ قَطْمِيْر

برائے حفاظت مال و جان و شر اعداء | یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالیں



اور اعوذ کے بعد حامل تعویذ کا نام لکھیں۔

یہ نہایت مجرب اور

آزمودہ ہے۔

كَلْبِيْبَعْنَ حَمَّ عَسَقْ اَعُوْذُ - بَكَاَتِ اللّٰهِ التّٰمَاتِ كَلْهَا مِنْ شَرِّ مَخْلُقِ

برائے دفعِ سحر | مندرجہ ذیل آیات مبارکہ چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر مسحور کو چند دن پلائیں اور

گلے میں بھی ڈالیں۔

① بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ اَوْحٰیْنَا اِلٰی مُوسٰی
اَنْ اَلِقْ عَصَاكَ فَاِذَا هٰی تَلْقٰتُ مَا یَا نِکُوْنُ ۝ فَوْقَ
الْحَقِّ وَ بَطْلٌ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ فَغَلِبُوْا هٰنَا لَکَ
وَ اَنْقَلِبُوْا صَغِیْرٰتِیْنَ ۝ وَ اَلْقٰی السَّحْرَةَ سَجٰدِیْنَ ۝

② بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ فَلَمَّا اَلْقٰوْا قَالَ مُوسٰی
مَا جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرُ ۙ اِنَّ اللّٰهَ سَیْبَطِلُهُ ۙ اِنَّ
اللّٰهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝ وَ یَحِقُّ اللّٰهُ
الْحَقُّ بِکَلِمٰتِہٖ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ (سورہ یونس)

③ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَ اَلْقٰی مَا فِیْ یَمِیْنِکَ
تَلْقٰتٌ مَّا صَنَعُوْا ۙ اِنَّمَا صَنَعُوْا کِیْدًا سَجِیْرًا وَ لَا
یُفْلِحُ السَّٰحِرِ حِیْثُ اَتٰی ۝ فَالْقٰی السَّحْرَةَ سُجَّدًا
قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوسٰی ۝ (سورہ طہ)

برائے دفعِ سحر | قرآن پاک کی آخری دو سورتیں یعنی الفلق اور الناس
کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈالیں۔ یاد م کر دیں۔ نیز سورہ
الکوثر کو بھی گیارہ بار پڑھ کر دم کریں۔

خوف کی بجائے امن و حفاظت | اندھیری رات میں کسی جگہ ہوں
یا سفر میں ہو یا کوئی خوف کا مقام

ہو، تو یہ چار کلچے پڑھتے رہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور
اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں گے۔

اللّٰهُ حَافِظِیْ - اللّٰهُ نَاصِرِیْ - اللّٰهُ نَاطِرِیْ - اللّٰهُ مَعِیْ۔


اگر مکان کے دروازے پر لکھ کر (کاغذ یا تختی یا پتھر پر) لگا دیا جائے تو وہ مکان بھی ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔

تعویذ نفی اثبات | یہ تعویذ ہر مرض کیلئے مفید ہے۔ نیز دشمنوں کے وار سے محفوظ رہنے کیلئے کارآمد ہے۔ اس کے ساتھ

اسم ذات کا تعویذ بھی شامل کر لیں تو اثرات دوچند ہو جاتے ہیں۔

بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



لا اله الا الله محمد رسول الله

تعویذ اسم ذات

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله

يا الله	۲۳	۱۸	۲۵	يا الله
يا الله	۲۴	۲۲	۲۰	يا الله
يا الله	۱۹	۲۶	۲۱	يا الله


يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله

مشکلات کو رفع کرنے کیلئے | دوازدہ تسبیح پڑھیں۔
لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ

برائے حفاظت از دشمنان
دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے یہ تعویذ لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔

یا اللہ ۱۶۹۷۲	یا اللہ ۱۶۹۷۱	یا اللہ ۱۶۹۷۰	یا اللہ ۱۶۹۶۹
یا اللہ ۱۶۹۶۸	یا اللہ ۱۶۹۶۷	یا اللہ ۱۶۹۶۶	یا اللہ ۱۶۹۶۵
یا اللہ ۱۶۹۶۴	یا اللہ ۱۶۹۶۳	یا اللہ ۱۶۹۶۲	یا اللہ ۱۶۹۶۱
یا اللہ ۱۶۹۶۰	یا اللہ ۱۶۹۵۹	یا اللہ ۱۶۹۵۸	یا اللہ ۱۶۹۵۷


تعوید برائے جن
یہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں۔ مگر پہلے خاص طریقے سے بند کر کے اس کے اوپر دھاگے والی زلی کا ناکہ توڑ کر اسے



تعوید کے اوپر ترچھا رکھیں۔ اس کے اوپر ہر مل کے سات دانے رکھیں۔ پھر اس پر چڑے کی چار تہیں دیں۔ پانچویں تہ چڑے کی دیں۔ ڈوری، دھاگہ، چمڑا، کپڑا، ہرگز سیاہ رنگ کا نہ ہو۔

اہم نوٹ
جب یہ تعویذ لکھنا شروع کریں تو پہلے یہ درود پاک بارہ مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے سر، کندھوں پر ہاتھ پھیر کر جھاڑوے۔ اللہم صل علی سیدنا محمدنا وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوٰۃ بعدد کل خلقک۔ پھر لکھنا شروع کرے۔ نیز اس تعویذ

برائے محبت و پیار



برائے محبت

یہ تعویذ لکھ کر وزن کے نیچے رکھیں۔ خیال ہی نیچے اور اوپر کا وزن ۲ کلو گرام سے کم نہ ہو۔ اور درخت کی ٹہنی کے ساتھ بھی باندھیں۔

برائے محبت

یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالیں۔

یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح

۷۸۶

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

الحب یا جبریلی بحق آدم و حوا فلاں بنت فلاں را
بتلاگرد بحق یابدوح یابدوح یابدوح

برائے محبت

یہ نقش محبت کے لیے اکیر اور مجرب ہے لکھ کر اپنے پاس رکھے یا بازو پہ باندھے۔

برائے تسخیر خلافت | يَا بَدِيعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعُ


اول و آخر دس دس بار درود پاک پڑھ کر پانچ سو مرتبہ پڑھے
خدا کے فضل سے تمام لوگ مطیع ہوں گے۔

برائے محبت نقش سورہ اخلاص | یہ نقش اپنے پاس رکھے۔

۷۸۶

۲۵۰	۲۵۳	۲۵۶	۲۴۳
۲۵۵	۲۴۴	۲۴۹	۲۵۴
۲۴۵	۲۵۸	۲۵۱	۲۴۸
۲۵۲	۲۴۷	۲۴۶	۲۵۷

الحب فدا بن فداں علی حب فداں بن فداں



برائے حب

یہ نقش
اپنے پاس رکھے۔
بہت مفید ہے۔

الحب فداں بن فداں علی حب فداں بن فداں

یہ دعا کسی کھانے والی چیز مثلاً گڑ یا پان وغیرہ پر تین بار پڑھے
برائے حب | کر دم کرے مطلوب مسخر ہو جاتے گا لیکن بدکاری کیلئے

یہ عمل نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ یُحِبُّوْنَهُمْ
 كَحُبِّ اللّٰهِ یَقْلُوْبُهُمْ فِی لَیْلِ وَنَهَارٍ وَفِی سَاعَةِ شَهْرِ عَلٰی
 حَبِیْبِهِمْ اَشَدُّ حُبًّا وَتُوْبِرُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اِذْ یَرُوْنَ
 الْعَذَابَ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا۔ (الحب فلاں بن فلاں علی
 حب فلاں بن فلاں -)

مطلوب کو طالب بنانا | مطلوب دور ہو یا نفرت کرتا ہو، اس عمل سے
 اس کا دل طالب کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
 اور مطلوب طالب بن کر حاضر ہوتا ہے۔ اول و آخر تین تین بار درود شریف
 پڑھے اور یہ عبارت ۳۶ بار پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ بِحُرْمَتِ
 جَبْرِیْلَ اللّٰهُ الصَّمَدُ بِحُرْمَتِ اسْرَافِیْلَ لَمْ یَلِدْ بِحُرْمَتِ
 مِیْكَائِیْلَ وَ لَمْ یُوْلَدْ بِحُرْمَتِ عِزْرَافِیْلَ وَ لَمْ یَكُنْ
 لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ بِحُرْمَتِ دَرْدَافِیْلَ۔

یا حلیم یا حلیم یا کریم انک علی کل شیء قدیر

۱۲۳	۱۲۶	۱۲۹	۱۱۶
۱۲۸	۱۱۷	۱۲۱	۱۲۷
۱۱۸	۱۳۱	۱۲۴	۱۲۱
۱۲۵	۱۲۰	۱۱۹	۱۳۰

رَبَّنَا اَتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً یَّا
 قَدِیْمُ الْاِحْسَانِ الْحَبُّ فَلَاں بِنِ فَلَاں عَلٰی حَبِّ فَلَاں بِنِ فَلَاں

برائے حب زوجین

اس نقش کو لکھ کر طالب و مطلوب
 (میاں بیوی) کو پلائے۔ ان شاء
 اللہ محبت بڑھے گی۔
 تجربہ ہے۔

برائے حب مطلوب شوہر یا بیوی یا اولاد وغیرہ ناراض ہو کر درجے جائیں تو یہ عمل اتوار کو شروع کریں بسم اللہ شریف

کی آخری میم کو الحمد کی لام سے ملا کر پوری سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ آمین کے بعد یہ عبارت مزید پڑھیں۔

بستم بستم بستم ستر پاپا ہر ہر عضو فلاں بن فلاں تا من نکشایم کس

نکشاید بحق العجل العجل العجل الساعة الساعة

الساعة الوحا الوحا الوحا برحمتك يا ارحم الراحمين

سات عدد کالی مرچ لے کر ہر ہر مرچ پر دم کرتے جائیں اور آگ

میں ڈالتے جائیں۔ یہ عمل ہر روز کریں حتیٰ کہ مطلوب حاضر ہوگا۔

۶۸۶

فلاں بن فلاں عجل عجل عجل	۲۶	۲۰	۱۲
۲۲	۱۲	۲	۲۲
۱۰	۱۶	۳۰	۲
۲۸	۶	۸	۱۸

برائے حب زن و شوہر

یہ تعویذ لکھیں اور اگر مرد کو ضرورت ہو تو بائیں بازو پر باندھے اور اگر عورت کو ضرورت ہو تو دائیں بازو پر باندھے مجرب ہے۔

برائے حب زن و شوہر

اگر کسی عورت کا خاوند اس سے جھگڑا کرتا ہو تو روز اتوار یہ تعویذ عورت اپنے گلے میں ڈالے باقی دو پاک پانی میں گھول کر شوہر کو پلائے۔



کے لیے یہ عزیمت لکھے اور کسی ایک کے گھر میں دفن کر دے۔ جدائی اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔

برائے ہلاکی دشمن

یا قاهر	یا قاهر	یا قاهر	یا قاهر
یا قاهر	یا قاهر	یا قاهر	یا قاهر
یا قاهر	یا قاهر	یا قاهر	یا قاهر
یا قاهر	یا قاهر	یا قاهر	یا قاهر

۴۱	۴۲	۱۲	۵	۴	ط	ح
وہ	۱۱۱	فلاں بن فلاں	فلاں	جدائی		
		فلاں بن فلاں	جدائی	گرواں		

یہ تعویذ لکھ کر
برائے جدائی
مطلوبہ اشخاص
کو پلائیں اور وزن کے نیچے بھی لکھیں۔

اس نقش کو ہفتہ یا منگل کے دن لکھے
نقش لکھتے وقت دونوں افراد کا خیال

برائے دشمنی و عداوت

وَالْقَيْنَا	بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ	وَالْبَغْضَاءُ	الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ
الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ	وَالْبَغْضَاءُ	بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ	وَالْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ	وَالْقَيْنَا	الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ	وَالْبَغْضَاءُ
وَالْبَغْضَاءُ	الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ	وَالْقَيْنَا	بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

کر کے کہے کہ ان
فلاں فلاں میں دشمنی
پیدا ہو یہ تعویذ دو
قروں کے درمیان
دفن کریں۔

۵۸۴۴۹
۵۴۱۶۶
۶۵۲۱۶۶

دو شخصوں
برائے دشمنی
کے درمیان

۱۳۳۹۸۸۸۹۹۹۸۸۸۴
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں

جدائی ڈالنی ہو تو ان کا پینا ہوا کپڑا
لیں بلکہ کراگ میں ڈالیں مجرب ہے۔

برائے دشمنی | یہ دونوں تعویذ لکھ کر پرانی قبر میں دفن کرے۔ دونوں افراد کا نام لکھے بہت جلد عداوت ہو جائے گی۔

انا اعطیناک	الکوثر	فصل	اللہم خالف بین
لربک	وانحر	ان	فلاں بن فلاں
ثانک	هو	الابتر	وفلاں بن فلاں

ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن

بقهرک یا قہار یا جبار

یا تاهر	ذالبطش	الشدید	انت الذی
ذالبطش	الشدید	انت الذی	لا یطاق
الشدید	انت الذی	لا یطاق	انتقامہ
انت الذی	لا یطاق	انتقامہ	یا تاهر

فلاں بن فلاں علی بعض فلاں بن فلاں

برائے دشمنی | دو افراد کے درمیان جدائی

و انا منظور ہو تو یہ نقش نزول ماہ میں منگل کے دن زحل کی ساعت میں لکھے اور پرانی قبر میں دفن

برائے جدائی و عداوت | ایک کاغذ پر یہ آیت لکھے۔ وَالْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى

بِسْمِ اللَّهِ
اللَّهُ اللَّهُ
اللَّهُ اللَّهُ

يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کے نیچے یہ
نقش لکھے اور اس کے بعد یہ لکھے
کہ فلاں اور فلاں کے درمیان تفریق

ہو دے۔ پھر اس کو پرانی قبروں کے درمیان دفن کرے۔ مگر یاد رہے ناجائز
بالکل نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔

برائے دشمنی و عداوت | بکرے کے شانے کی ہڈی لے کر اس پر
یہ لکھے۔ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فراق دل فلاں بن فلاں علی عداوة فلاں
بن فلاں اس ہڈی کو پرانی قبر میں مشرق کی طرف دفن کرے۔ اس سے جدائی
ہو جائے گی۔

زبان بندی دشمن | با وضو ہو کر یہ آیات لکھ کر بازو پر باندھیں۔ ان
شائر اللہ دشمن کی زبان بند رہے گی اور کوئی نقصان
نہ پہنچا سکے گا۔


يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَعْوَجَ لَهُ سَعَى كَرٍ
وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۝ تَكَسَّرُ سُوْرَةُ طه آيَات ۱۰۸ تَا ۱۱۲

۷۸۶

۲۰۹	۲۰۶	۲۱۱
۲۱۰	۲۰۸	۲۰۶
۲۰۵	۲۱۲	۲۰۷

برائے زبان بندی | جو شخص اس نقش کو
ساعت زہرہ میں

لکھ کر دائیں بازو پر باندھے تو انشاء اللہ دشمنوں
کی زبان بند رہے گی۔



برائے زبان بندی

یہ تعویذ لکھ کر چند دن تک پلائے۔

برائے زبان بندی اس نقش کو بروز منگل یا ہفتہ لکھ کر دشمن کے مکان کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دبا دے۔ بحرب ہے۔

غشاوة ۱۹	وعلی البصار ہم ۱۸	وعلی سمع ہم ۱۷	حتم اللہ علی قلوب ہم ۱۶
غشاوة ۱۹	وعلی سمع ہم ۱۷	وعلی البصار ہم ۱۸	حتم اللہ علی قلوب ہم ۱۶
وعلی البصار ہم ۱۸	غشاوة ۱۹	حتم اللہ علی قلوب ہم ۱۶	وعلی سمع ہم ۱۷
وعلی سمع ہم ۱۷	حتم اللہ علی قلوب ہم ۱۶	غشاوة ۱۹	وعلی البصار ہم ۱۸

بسم عقل و ہوش چشم و گوش و دین و زبان و دل و جان
فلان بن فلان

۷۸۶

دو لاء او الاء
۹۹۹۱ عہ عہ الاوالہ ۹

برائے زبان بندی

یہ نقش لکھ کر بہتے ہوئے پانی (مثلاً دریا) کے کنارے دفن کر دے۔ دشمن کی زبان بند ہو جائے گی بحرب ہے۔

بسم زبان فلان بن فلان

جابر حاکم مہربان ہو | ان دونوں نقوش میں کوئی ایک نقش با وضو ہو کر لکھ کر اپنے پاس رکھے، حاکم مہربان ہو گا۔ بخر ہے۔

۷۸۶

۲۶۸	۲۶۲	۲۶۰
۲۶۹	۲۶۷	۲۶۴
۲۶۳	۲۷۱	۲۶۶

۷۸۶

۱۹۹	۲۰۳	۲۰۶	۱۹۲
۲۰۵	۱۹۳	۱۹۸	۲۰۴
۱۹۴	۲۰۸	۲۰۱	۱۹۷
۲۰۲	۱۹۶	۱۹۵	۲۰۷

دشمنوں کے شر سے بچنے کیلئے | روزانہ دو تیس پڑھیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ
شُرُورِهِمْ

مختلف اور متفرق کاموں کیلئے

کھانے میں زیادتی اور برکت کیلئے | مکمل طہارت کے ساتھ جمعہ مبارک کی رات کو


بارہ سو مرتبہ یہ آیت پڑھیں، عمل پورا ہو جائے گا۔

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ○

پھر جب کسی کھانے پر سات مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاء اللہ ایک آدمی کا کھانا دس آدمیوں کے لیے کافی ہو گا۔

دیگر : سات سو بار یا شکوٹس پڑھ کر کھانے پر دم کریں برکت ہوگی۔

گمشدہ چیز کی اطلاع کیلئے یہ تعویذ دائیں



ہتھیلی پر لکھیں۔ خواب میں معلوم ہو جائیگا۔

گمشدہ آدمی یا مال و متاع کی اطلاع کے لیے

۲۵۰	۲۵۳	۲۵۶	۲۴۳
۲۵۵	۲۴۴	۲۴۹	۲۵۴
۲۴۵	۲۵۸	۲۵۱	۲۴۸
۲۵۲	۲۴۶	۲۴۶	۲۵۶

گمشدہ آدمی یا مال و متاع
کے بارے میں معلوم کرنے
کے لیے سوتے وقت با وضو
اس نقش کو لکھ کر سر ہانے
کے نیچے رکھیں۔ کم از کم ایک
ہفتہ تک ایسا کریں۔

دیکھی: اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور درمیان میں سورہ
فاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور اپنے مقصد کا تصور کر کے سنت طریقہ سے
سو جائیں۔

برائے ملاقات مسافر | مسافر کو تلاش کرنیوالا اپنے پاس رکھے۔

ع	م	ا	ج
۱۴	۹۱	۶۸	۲۳
۱۱	۲۴	۱۳	۲۶
۱۹	۴۱	۳۲	۲۲

جامع ۱۱۴

برائے زیادتی علم

۶۹	۸	۷۲	۳۱
۴۳	۷	۱۴	۷
۲۹	۲		
۹			

لکھ کر پاس رکھے اور
پینے کے لیے بھی دیں۔

دودھ سے زیادہ مکھن نکالنے کے لیے یہ تعویذ مددھانی کے ساتھ

۷۸۶

ابوبکر صدیقؓ	عمر خطابؓ	عثمان غنیؓ	علی حیدرؓ
ابوبکر صدیقؓ	عمر خطابؓ	عثمان غنیؓ	علی حیدرؓ
ابوبکر صدیقؓ	عمر خطابؓ	عثمان غنیؓ	علی حیدرؓ
ابوبکر صدیقؓ	عمر خطابؓ	عثمان غنیؓ	علی حیدرؓ

باندھے۔ اللہ پاک کے حکم
سے زیادہ مکھن نکلے گا۔
مغرب ہے۔

برائے زیادت روغن مکھن گھی، یہ تعویذ لکھ کر مدھانی کے
ساتھ باندھیں۔

لا الہ الا اللہ
نوح نبی اللہ

یا
الص
موسوس
علی
محمد

باؤلے کتے کے کاٹے کا علاج
یہ آیات روٹی کے ٹکروں
پر لکھ کر ہر روز ایک ٹکڑا کھلائیں

انشاء اللہ دیوانگی کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ یا ہر روز لکھ کر پلائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنَّهُمْ یَکِیْدُوْنَ

كَيْدًا ۝ وَآكِيدًا ۝ فَهَيِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ
رُوَيْدًا ۝


برائے زہر بھڑا بچھو وغیرہ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے
بعد درود شریف ایک بار اور پھر یہ آیت

پڑھ کر ڈنک پر دم کریں۔ انشاء اللہ آرام ہوگا۔

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝

گائے وغیرہ حاملہ نہ ہوتی ہو | اگر گائے، بھینس، بھڑا بکری وغیرہ
حاملہ نہ ہوتی ہو۔ تو یہ تعویذ سات

عدو لکھے اور ہر روز ایک تعویذ صبح کو آٹے کے پیڑے میں بند کر کے
کھلاوے۔



گائے وغیرہ ڈوہ دیتے وقت کے | اگر گائے، بھینس وغیرہ سرکشی کرے
اور دو دھ نہ دے تو یہ تعویذ لکھ کر

اس کے سینگ یا دم پر باندھے۔
دودھ دے گی۔

شداو	مروو	فرعون
مروو	فرعون	ھامان
قارون	ھامان	شداو


دیگر: ہنر چارہ پر ایک سو بیس
بار یہ آیت پڑھ کر دم کرے اور

گائے وغیرہ کو کھلائے۔ دو دھ دے گی۔ مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ۔

برائے قرعہ اندازی | آیت مبارک فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ کو ایک جھوٹے

اگلے جمعہ تک ہر نماز کے بعد ایک سو بار پڑھے۔ عمل پورا ہو جائے گا۔ پھر
قرعہ اندازی کے وقت پڑھتا رہے۔ بہت مفید اور آزمودہ ہے۔

برائے تمنع بندی
دشمنوں کے حملوں، تلوار، نیزہ گولی وغیرہ سے
محفوظ رہنے کیلئے یہ تعویذ اس جمعہ کی رات کو
لکھے کہ صبح کو عید الاضحیٰ ہو۔ لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ ہر قسم کے حملہ سے محفوظ
رہے گا۔



مکان کی حفاظت کیلئے جس مکان میں جن شیاطین آسیب
وغیرہ کا اثر ہو تو یہ اسمائے گرامی

اصحاب کہف لکھ کر مکان کی دیواروں، دروازوں پر چپکاوے لٹاؤ اللہ
ہر قسم کا اثر ختم ہو جائے گا۔

اللہی بجرمت علینا مکسلمینا کشفو طر زرقطیونس
کشافطیونس یونس بوس واسم کلہم قطیرہ وعلی اللہ

قصد السبيل ومنها جائد۔

ان اسماء میں یہ بھی صفت ہے کہ لکھ کر آگ میں ڈال دے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتے تجرب ہے۔

برائے حفاظت از تیر و تفنگ وغیرہ | یہ نقش ماہ رمضان کے
آخری جمعہ کو عصر و مغرب

کے درمیان لکھے جس
کے پاس یہ نقش ہوگا
اس پر تیر، گولی، تیغ وغیرہ
اثر نہ کرے گی۔ ہر قسم
کے سحر جادو سے محفوظ
رہے گا۔ شادمانی
نصیب ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

الر	الر	الر	المص	العر	العر
طس	طه	كهيص	الع	الع	الم
طس	العر	العر	العر	طس	طس
یس	ح	ح	ح	ص	ح
حم	ن	ق	حم	حم	حم

۷۸۶

۵۹۱۵	۵۹۰۸	۵۹۱۳
۵۹۱۰	۵۹۱۲	۵۹۱۴
۵۹۱۱	۵۹۱۴	۵۹۰۹

برائے ہر کام | پریشانی،
مقدمات،

کاروبار وغیرہ کیلئے سرواپنے دائیں
بازو پر اور عورت بائیں بازو پر

باندھے۔ یہ نقش عروج ماہ میں مشتری یا زہرہ کی ساعت میں لکھے۔

حافظہ کی زیادتی کے لیے | حافظہ کو قوتی کرنے کے لیے جمعرات کے
دن سورج نکلنے ہی مشتری کی ساعت

میں اول و آخر گیارہ بار درود شریف اور اکتالیس مرتبہ پوری سورہ فاتحہ
مگر بسم اللہ کی آخری میم کو الحمد کی لام سے ملا کر پڑھے۔ اور ایک پاؤ میٹھی

کھیلوں پر دم کرے۔ روزانہ ہارمنہ ان کھیلوں میں سے سات یا نو دانہ کھائے۔ انشاء اللہ حافظ قوی ہو جائے گا جو پڑھے گا یا دہے گا بہت مجرب ہے۔

یہ آیت روزانہ بعد نماز عشاء مفرور کا تصور کر کے بے حساب پڑھے۔ چند دن میں مفرور واپس آجائے گا۔ اگر مفرور کی ماں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

مفرور کی واپسی | بھاگے ہوئے شخص کو واپس لانے کے لیے


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یا محمد یا علیؑ
 الھی فلاں برگرد در
 سوائے خانہ خویش قرار نگیرد
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ۱۳۱۲ھ

یہ نقش لکھ کر ایسی جگہ باندھیں کہ ہوا سے متحرک رہے۔ مجرب ہے۔ فلاں کی جگہ مفرور کا نام مع والدہ لکھیں۔

مدرسہ سے بھاگنے والا بچہ | جو بچہ مدرسہ یا مکتب سے بھاگتا ہو۔ یہ آیات مبارکہ لکھ کر بطور تعویذ اس کے گلے میں ڈالیں۔

كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالذِّينِ وَإِن عَلَيْكُمْ لِعَاقِبِينَ
 كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْدَانَ لِنَفِي نَعِيمٍ

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصُلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ○



دیگر برائے مفرور کسی کا بچہ
کھو گیا ہو

یا بھاگ گیا ہو تو یہ نقش لکھ کر انار کے
درخت سے باندھ کے لٹکا دے۔
انشاء اللہ مفرور فوراً واپس آئے گا۔

الهی بحق این نقش مفرور فلاں بن فلاں بے قرار شود

زود بیاید زود بیاید زود بیاید

ان دونوں میں سے کسی ایک نقش کو
استعمال میں لائے۔ ہر مقصد کی کامیابی

ہر مقصد میں کامیابی کیلئے

کے لیے مجرب اور اکیسویں۔

۷۸۶

سَلَامٌ	قَوْلًا	مَنْ
قَوْلًا	مَنْ	رَبِّ
مَنْ	رَبِّ	رَجِيمٌ

۲۰۴	۲۰۷	۲۱۰	۱۹۷
۲۰۹	۱۹۸	۲۰۳	۲۰۸
۱۹۹	۲۱۲	۲۰۵	۲۰۲
۲۰۶	۲۰۱	۲۰۰	۲۱۱

رات کو حسبِ خواہش جاگنا جو شخص رات کو سوتے وقت
سورۃ کہف کی آخری تین آیتیں

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ رَبِّهِمْ أَحَدًا هُوَ كَرِيمٌ
اللہ مجھے ان آیات کی برکت سے فلاں وقت بیدار کر دینا۔
ان شاء اللہ مقررہ وقت پر اٹھ کھل جائے گی۔

چہرے یا جسم پر مستے (موہکے) نئی مونج کی رسی لیں۔ جسم یا چہرے پر جتنے موہکے ہوں۔ رسی پر اتنی

گرہیں لگائیں۔ گرہ دیتے وقت مریض اپنے مستے پر شہادت کی انگلی رکھے اور عامل یہ آیت پڑھے۔

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَبُوا

مریض پھر دوسرے مستے پر انگلی رکھے اور عامل پڑھ کر گرہ دیتا جاتے۔ عمل کر کے رسی کو لپیٹ لیں۔ اور گندگی کے ڈھیر میں دبا دیں۔ کم از کم دو ہفتے تک دبی رہے۔ تین چار دنوں کے بعد مستے کرنے شروع ہو جائیں گے اور جلد صاف ہو جائے گی۔

خیر و برکت اور کامیابی کیلئے روشن دن میں بہتر جگہ پر با وضو ہو کر یہ کلمات صرف پانچ سو مرتبہ

پڑھنے سے ہر طرح کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھتے رہا کریں۔ کیا بات ہے۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝

برائے زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے

لیے چند عمل تحریر کئے جاتے ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سعادت صرف اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور خود رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اس سعادت کے حصول میں ممد ثابت ہو سکتی ہے۔

① روزانہ بعد نماز عشاء یہ درود پاک ۱۰ مرتبہ پڑھ کر کسی سے بات کیے

بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے سو جائیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ

② نماز کے بعد یہ کلمات تین سو مرتبہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کے پندرہ بیس منٹ تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں۔ کسی اور سے بات کئے بغیر اسی طرح سو جائیں۔ کم از کم اکیس روز تک مسلسل کریں۔

صَلَّى اللهُ تَعَالَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدًا وَسَلَّمُ بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا وَدُودُ يَا بَدِيعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ
يَا بَدِيعُ بِسْمِ اللهِ الْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهُ يَا حَفِيفُ.

③ شب جمعہ کو بعد نماز عشاء، اول دو رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ دونوں رکعتوں میں بعد سورہ فاتحہ آیت الکرسی ایک بار سورہ اخلاص پندرہ بار پڑھیں۔ نماز کے بعد یہ درود پاک ایک ہزار بار پڑھ کر سو جائیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَحَبِيبِكَ وَ
رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ.

④ رمضان المبارک میں روزانہ تہجد کے وقت ایک ہزار مرتبہ درود ہزارہ پڑھیں بہت کسیر ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ
كُلِّ ذِيَّةٍ مِائَةَ أَلْفٍ مَرَّةٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

⑤ درود مقدس روزانہ بعد نماز عشاء چالیس روز پڑھیں۔

⑥ درود اکبر روزانہ بعد نماز عشاء پڑھیں۔

۷۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازنا و مبارک ہے کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت با وضو ان کلمات کو پڑھا کرے وہ خواب میں مجھ کو دیکھے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالرُّكْنِ الْمَكَارِمِ اقْرَأْ
رُوحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلِي السَّلَامَ ۝

بدھ کی رات شروع کرے جسم کپڑے بستر پاک ہو۔

۸۔ بعد نماز عشاء دو رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں فاتحہ

کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعائیں مرتبہ پڑھے۔

يَا مُحْسِنُ يَا مُجَبِّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْصِلُ ارِنِي وَجْهَ
حَبِيبِي وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جسم کپڑے اور بستر پاک و صاف ہوں۔ خوشبو لگاتے۔ بدھ کی رات

سے شروع کرے۔ کم از کم تین راتیں ضرور کرے۔ مجرب ہے۔

۹۔ شب جمعہ کو بعد نماز عشاء دو رکعت پڑھے۔

میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار سورہ اخلاص پندرہ بار سلام کے بعد

یہ دعا پلا تعداد پڑھے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتے جسم کپڑے بستر وغیرہ پاک

ہو خوشبو لگاتے۔

اللّٰهُمَّ أَنْزِلْتَ الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ لِتُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ
وَتُسْقَى بِهِ الْعِبَادَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ اسْتَدَّ
شَوْقِي إِلَى مُحَمَّدٍ وَطَالَ حُزْنِي بِهِ اللَّهُمَّ فَارْحِنِي
وَمَنْ عَلَيَّ مِنْ نَظْرٍ وَجْهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

استخارہ

طریقہ استخارہ جب کسی امر میں استخارہ کرنا چاہے تو وضو کر کے صاف کپڑے پہن پاک بستر پر واہنی کروٹ لیٹ کر سورہ الشمس سات بار سورہ اللیل سات بار اور سورہ اخلاص سات بار پڑھ ایک اور روایت میں سورہ اخلاص کی بجائے سورہ والتین ہے۔ پھر یہ دعا پڑھ۔

اللَّهُمَّ ارِنِي كَذَا وَكَذَا وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي
فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَارِنِي فِي مَنَامِي مَا اسْتَدْبَلُ بِهِ عَلَى

إِجَابَةِ دَعْوَتِي۔ اول تو پہلی رات معلوم ہو جائیگا۔ ورنہ دوسری یا تیسری رات میں نہیں تمنا راتوں تک یہ عمل کر ضرور حال کھل جائیگا۔

دیگر استخارہ کوئی شخص جو دینی یا دنیوی کام میں معلوم کرنا چاہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں تو یہ نقش لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے

رکھے اور واہنی کروٹ لیٹے۔ ان شاء اللہ اس پر سارا حال کھل جائے گا۔ یہ عمل بدھ کی رات کو شروع کرے۔ جسم، کپڑے اور بستر پاک ہوں۔ خوشبو لگائے۔ اگر

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَالَمِينَ لَا يُعْلَمُهَا

۲۰۶۲	۲۰۶۵	۲۰۶۸	۲۰۵۴
۲۰۶۶	۲۰۵۵	۲۰۶۱	۲۰۶۶
۲۰۵۶	۲۰۶۰	۲۰۶۳	۲۰۶۰
۲۰۶۴	۲۰۵۹	۲۰۵۶	۲۰۶۹

پہلی رات بات واضح نہ ہو تو سات راتوں تک کرنا چاہیے۔ بہت مجرب ہے۔

اللَّهُمَّ ارِنِي كَذَا وَكَذَا وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَارِنِي فِي مَنَامِي مَا اسْتَدْبَلُ بِهِ عَلَى إِجَابَةِ دَعْوَتِي۔

دیگر استخارہ | جسم، کپڑے، بستر پاک صاف ہوں۔ خوشبو لگاتے۔ بعد نماز عشاء، سوتے وقت وضو کر کے بستر پر بیٹھ جائے۔ پانچ بار توفیق پانچ بار تسمیہ پھر اکیس بار یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ حَالًا وَمَالًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِلَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ أَسْئَلُكَ أَنْ تُحْيِي قَلْبِي بِتُورِ مَعْرِفَتِكَ
يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ۔

پھر دعا کرے کہ اے اللہ جو کچھ تیرے علم میں ہے مجھے آگاہ فرما۔ داہنی
کروٹ لیٹ کر سو جائے۔ منہ قبلہ کی طرف ہو۔ بدھ کی شروع کرے اور
سات روز تک کرے۔

دیگر استخارہ | سوتے وقت اکیس مرتبہ دعا پڑھے۔ اَفْتَحْ اَفْتَحْ يَا بَدِيْعُ
الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ اَوَّلِ وَاخِرِ وَاخِرِ وَاخِرِ اَوَّلِ
ایک بار پڑھے۔ دائیں کروٹ لیٹ کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی چہرے کے نیچے رکھ کر
سوتے۔ سوتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں دہراتے دہراتے سو جائے۔ زیادہ
سے زیادہ تین دن میں خواب یا بیداری میں معلوم ہو جائے گا۔

دیگر استخارہ | عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے پاک بستر پر بیٹھ کر خوشبو لگا کر
پڑھیں۔ درود شریف تین بار۔ سورہ فاتحہ دس بار اور سورہ اخلاص
گیارہ بار پڑھ کر سینے پر دم کریں۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ سو جائیں۔ اور
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنے کلام کی برکت سے میری رہنمائی فرما کہ یہ کام کروں
یا نہ کروں چند دن یہ عمل کرتے رہیں۔

دعاء استخاره (۱)

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم اني استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر و لا اقدر و تعلم و لا اعلم و انت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر (در اين محل حاجتي را كه براي آن استخاره ميكنيد در ذهن بگذرانيد) خير لي في ديني و معاشي و عاقبة امري او عاجل امري و اجله فاقدره لي و يسره لي ثم بارك لي فيه اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر (در اين محل حاجتي را كه براي آن استخاره ميكنيد در ذهن بگذرانيد) شر لي في ديني و معاشي و عاقبة امري او عاجل امري و اجله فاصرفه عني و اصرفني عنه و اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به.

پيش از خواندن اين دعاء دو ركعت نماز خوانده شود. در ركعت اول سورة قل يا ايها الكفرون و در ركعت دوم سورة اخلاص .

وبعد از دعای مذكوره كلمات ديبل به عدد معين ذكر شده آن تكرر

گردد:

- ۱- اللهم يا عليم علمني ----- ۳۳ بار.
- ۲- اللهم يا خبير اخبرني ----- ۳۳ بار.
- ۳- اللهم يا رشيد ارشدني ----- ۳۳ بار.

۱- عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في

الامر كما يعلمنا السورة من القرآن. (مشكوة شريف صفحه ۱۱۶).

فہرست

83	برائے بواہیر	16
83	برائے دانت درد	17
84	برائے چشم	18
84	برائے کالی کھانسی، خسرہ، ام الصبیان	19
84	برائے درد چنبیل	20
85	برائے ناف	21
85	برائے یرقان	22
85	برائے پتھری مثانہ	23
86	برائے دفع گلہڑ	24
86	برائے جس بول	25
87	برائے زیادتی شیر	25

صفحہ

نمبر شمار عنوان

77	عمل کرنے / تعویذ لکھنے کی شرائط	1-
	امراض بدن	2-
79	برائے بخار	1-
79	برائے سردرد	2-
80	درد شقیقہ	3
80	برائے بخار	4
80	برائے مرگی	5
80	آشوب چشم	6
81	برائے خفقان دس	7
81	برائے ہول دل	8
81	برائے ہر قسم دل کی بیماری	9
81	برائے درد ہر قسم	10
82	برائے عرق النساء	11
82	برائے باری کا بخار	12
82	بخار لرزہ	13
82	تکسیر و استحاضہ	14
83	برائے تکسیر	15

برائے امراض مستورات و اطفال

87	برائے حمل عورت / جانور	1
88	برائے حفاظت حمل	2
89	برائے بانجھ پن	3
89	برائے اولاد زینہ	4
90	انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا	5
91	برائے صالح اولاد	6
91	برائے حفاظت اطفال	7
92	مایوس مریض	8
92	عدم قدرت برزن	9

107	وساوس سے نجات	6
108	سحر مدفون کا معلوم کرنا	7
108	مرض یا سحر کا معلوم	8
108	دو آیتیں تین کام	9
109	دفعہ غصہ حاکم	10
109	گم شدہ چیز کی بازیابی	11
110	بھاگا ہوا شخص / لڑکا واپس آئے	12
110	واپسی چور	13
112	پھٹی دیوار نہ گرے	14
112	برائے محبت زونجین	15
112	برے اور ڈراؤنے خوابوں سے نجات	16
114	حضور ﷺ کی پیاری آیتیں	17
114	استخارہ مجرب	18
115	اسم اعظم	19
115	ہر نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ	20
115	دیدار حضور پر نور	21
116	اسماء حسنیٰ	22
116	ہر نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ	23

برائے حفاظت

1	مسور اور مایوس العلاج مریض کے لیے 92
2	اولاد / غلام / سواری 93
3	کتب یا موسیقی جانور سے امن 94
4	ضرر و زہر سے پیشگی حفاظت 94
5	دشمنوں سے حفاظت 95
6	نظر بد سے نجات 95
7	حفاظت از چوری 96
8	حفاظت کھیت و باغ 97
9	برائے فراخی رزق 97
10	برائے ترقی و آمدن دکان 99
11	برائے دفع غم و حل مشکلات 100
12	حروف مقطعات 101
13	خاص آیات 102, 103

برائے جادو / آسیب / جن

1	برائے دفع نظر بد 103
2	دوسوں سے نجات 104
3	برائے دفع سحر جادو 104, 5
4	برائے دفع جن آسیب وغیرہ 106
5	جنات کے دفعیہ کے لیے خرابی دجاہ 106

پیر طریقت خلیفہ مطلق آفتاب ولایت محبوب نظر مرشد گرامی پیر سید
زاہد حسین شاہ الفلاح سٹریٹ مال روڈ پشاور۔۔۔۔۔ صدر

زیر نظر کتاب بہار سیفیہ حصہ دوم تصنیف لطیف مجدد ملت امام
خراسانی سیدنا و مرشدنا اخذ زادہ سیف الرحمن مبارک ہے۔ کیونکہ فارسی زبان اور
عربی زبان سے ہر شخص استفادہ نہیں کر سکتا تھا۔ برادر عزیز پروفیسر شتاق احمد عابدی
سیفی نے اس کا ترجمہ بڑے سہل الفاظ میں فرمایا ہے۔ جس سے امراض کے نام اور طریقہ
استعمال کو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یقیناً یہ معمولات اس شخص کے لیے سود مند ہیں
جس نے اپنے شیخ کامل و مکمل سے اجازت حاصل کی ہو۔ اور سب سے بڑی حصہ دوئم
میں جو خوبی ہے کہ قرآن کریم کی اصل آیات مقدسہ سے علاج کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ پروفیسر شتاق احمد کی سعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ یہاں پر میں اپنے
دیرینہ دوست، دیرینہ سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے تعلقات میرے والد محترم
پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت حضرت پیر سید عبداللہ شاہ صاحب
کے وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کبھی بھی یہاں کی حاضری کو ترک نہیں
کیا۔ اس سے میری مراد بہار سیفیہ حصہ دوئم مرتب مفتی پیر محمد عابد حسین سیفی
ہیں۔ انہوں نے اس کو ترتیب دے کر اس کو اشاعت کا عملی جامہ پہنا کر مالکین کے
استفادہ اور افادہ کے لیے قیامت تک اپنے مرشد گرامی کے اس گوہر نایاب کو
محفوظ کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے، لکھنے لکھانے والے اس کے
فیض سے بہرہ ور ہوتے رہیں۔

سید زاہد حسین شاہ

۱۵ / ۴ / ۲۰۰۳

عمل کرنے / تعویز لکھنے والے کے لیے شرائط

- عمل کرنے یا تعویز لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان قواعد و شرائط پر مکمل عمل پیرا ہو ورنہ اس کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور فائدہ بھی نہیں ہوگا۔
- 1- تعویزات لکھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد سے اجازت حاصل کرے۔
 - 2- حلال روزی کما کر کھائے، نیک اعمال پر کار بند ہو۔
 - 3- جب کوئی تعویز لکھے یا عمل پڑھے تو با وضو ہو۔
 - 4- اپنی نیت صاف رکھے شیطانی خیالات سے پرہیز کرے اللہ پاک کی رحمت اور فضل کا طالب رہے۔
 - 5- محبت کے عروج ماہ میں جمعرات یا جمعہ کے دن مشتری یا زہرہ کی ساعت میں عمل پڑھے یا تعویز لکھے۔
 - 6- عداوت و دشمنی کے لیے عمل زوال ماہ میں ہفتہ یا منگل کے دن زحل یا مریخ کی ساعت میں کرے۔
 - 7- عمل پڑھنا ہو تو ایک جگہ مقرر کرے، جائے نماز بھی خاص ہو جگہ بدلنے سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔
 - 8- کوئی بھی عمل یا تعویز ناجائز کام کے لیے ہرگز نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔
 - 9- محبت کا تعویز اگر زن و شوہر کے لیے ہو تو مکروہ تحریمی ہے اگر اس کیلعا وہ ہو تو حرام ہے۔

کتب شرعیہ احیاء العلوم (امام غزالی) میں تفصیل موجود اور عداوت کے تعویز کے

بارے میں سرکار اخندزادہ مبارک فرماتے ہیں قطعی نزام ہے۔

بہارِ سفیہ (حصہ دوم)

نوٹ: اس حصہ میں نقوش کی بجائے آیاتِ قرآنی اور دیگر دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔

برائے بخار جس کسی فرد کو گرمی کے سبب بخار ہو تو یہ آیت پڑھ کر دم کریں یا لکھ کر پیادیں ان شاء اللہ شفا ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔

اگر سردی کے ساتھ بخار ہوتا ہو تو، بار پانی دم کر کے منہ پر چھینٹے ماریں۔ دیگر قسم کے بخار کیلئے پیل کے پتوں پر تحریر کریں۔ کم از کم سات پتے ہونا ضروری ہیں۔ ایک پتے کو تین بار پانی میں حل کر کے پییں۔ سات دن استعمال کرنے سے بخار انشاء اللہ اتر جائیگا۔

دیگر یہ آیت مبارکہ لکھ کر گلے میں ڈالیں۔ بخار سے آرام ہوگا۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔

برائے سردی یہ آیت مبارکہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔

لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ۔

دیگر ماہِ رمضان کے آخری جمعہ کے دن نماز فجر یا نماز جمعہ کے بعد یہ آیت زیادہ تعداد میں لکھ کر رکھ لیں۔ وقت ضرورت سر پر باندھیں ان شاء

اشر آرام آجائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِرَبِّكَ کَیْفَ مَدَّ
الظِّلَّ وَکَوَّشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ
دَلِیْلًا ثُمَّ قَبَضْنَا هَ الْیْنَاقِبْضًا یَسِیْرًا۔

درد شقیقہ | درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر درج ذیل تین بار پڑھ
کر دم کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ خَیْرِ الْاَسْمَاءِ رَبِّ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ بِسْمِ اللّٰهِ
الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاوٰتِ وَهُوَ
السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔

برائے بخار | پانی پر سورہ فاتحہ چالیس بار پڑھ دم کریں۔ مریض کو پلائیں
بھی اور اس کے منہ پر چھینٹے بھی دیں۔ ان شاء اللہ بخار
اتر جائے گا۔

برائے مرگی | درج ذیل پڑھ کر مریض کے کان میں پھونک ماریں۔ اول
تو ایک بار کافی ہے ورنہ حسب ضرورت دو تین بار
پڑھ کر پھونکیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْمَصَّ۔ طَسَمَ۔ کَفَّیْعَصَ یَسِیْرًا
وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ۔ حَمَّسَتْ۔ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُوْنَ۔

دیگر | سورہ التحریم پڑھ کر دم بھی کریں اور پینے کو بھی دیں۔

اشوب چشم | درج ذیل میں دوبارہ آنے والے حروف کو حذف کر کے
نوحند می ہفتہ کو لکھ کر مریض کو پلائیں سال بھر آرام رہیگا۔

الْقَوَّاسِ - النَّارِ - كَهَيْعَتِ - طَهْ - طَسَّرَ - طَسَّرَ - يَسَّ -
صَ - قَ - نَ -

برائے خفقان دل | یہ آیات کسی برتن پر لکھ کر دھو کر پلائیں۔

أَفْعَبِرْ دِينَ اللَّهِ مِنَ الْخَسِرِينَ (آل عمران - آیات ۸۳ تا ۸۵)

برائے ہول دل | یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے اس طرح کہ
تعویذ دل کے اوپر رہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ
اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

دیگر | یہ آیت تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں تعویذ دل پر رہے۔

لِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ .

برائے ہر قسم دل کی بیماری | اول و آخر ۱۱، ۱۱ بار درود شریف
اور در بیان میں یہ پڑھ کر دل پر دم
کرے ان شاء اللہ شفا ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ دَلْ مَا رَأَى
مُسْتَقِيمٌ بِحَقِّ آيَاتِكَ نَعْبُدُكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .

برائے درد ہر قسم | جسم میں کسی جگہ درد ہو تو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر
سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر
دم کریں۔ ان شاء اللہ درد ختم ہو جائے گا۔

اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي سُوءَ مَا أَجِدُ وَفَحْشَةَ بَدْعُوَةِ نَبِيِّكَ

مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِ الْمُسْكِينِ الْأَمِينِ عِنْدَكَ .

برائے عرق النساء | درج ذیل عبارت لکھ کر وائیں یا بائیں درود الی مانگ پر باندھیں۔

لَمِيتَهَا الْعِرْقُ النَّابِتِ فِي الْجُسْمِ الَّذِي يَمُوتُ مَتُّ مَتِّ
مَتِّ بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ .

برائے باری کا بخار | اگر باری کا بخار ہو تو دوبارہ بخار شروع ہونے سے قبل ایک
کاغذ پر یہ آیت لکھیں اور مریض کے ماتھے پر
لگا دیں۔ ان شاء اللہ بخار نہ ہوگا۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

بخار لرزہ | درج ذیل لکھ کر مریض کو پلائیں۔ بخار نہ ہوگا۔ (ان شاء اللہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ . وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ . وَبِالْحَقِّ
أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ . وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

نکسیر و استخاضہ | جس کی نکسیر جاری ہو تو یہ لکھ کر مریض کی دونوں آنکھوں
کے درمیان ناک پر باندھیں۔ عورت کا خون رکتا ہو
تو تین کاغذوں پر لکھیں۔ ایک اس کے گلے میں ایک پشت پر اور ایک زیر
زیر ناف باندھ دیں۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ . أَفَأَبْنُ
مَاتٍ أَوْ قَتِيلٌ أَنْقَلَبْتُمْ .

انگشت شہادت سے ناک سے لکھتا ہوا اوپر کی طرف
برائے نکسیر | لے جائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ تین بار ایسا کرے۔
ان شاء اللہ خون بند ہو جائیگا۔

جمعہ یا پیر کے دن صبح یا ظہر کی نماز کے بعد یہ عبارت لکھ
برائے بوا سیر | کر تعویذ بنا کر کمر میں باندھیں اور کئی دن بندھا رہنے
دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یَا رَحِیْمُ کُلَّ صَرِیْحٍ وَمَكْرُوبٍ
یَا رَحِیْمُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ۔ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ۔

دیگر | درج ذیل آیات کوشیتے کے برتن پر زعفران و عرق گلاب سے لکھ
کر دھو کر پلائیں۔ خون بوا سیر کو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ... العَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(البقرہ آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹)

یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر ان دانتوں کے درمیان
برائے دانت درد | دبائیں جن میں درد ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ۔

دیگر | درج ذیل پڑھ کر درد والے دانت پر دم کریں۔

كَهَيْعَصَ۔ حَمَسَقَ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ وَلَهُ مَا
سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

برائے چشم | یہ آیت مبارکہ تعویذ بنا کر آنکھ پر باندھیں۔ یا پلیٹ پر لکھ کر آنکھ کو دھوئیں اور ہر نماز کے بعد کم از کم تین بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیریں۔ ان شاء اللہ نظر کمزور نہیں ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَّرْنَاكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔

برائے کالی کھانسی، خسرہ، ام الصبیان | کچے سوت کے سیاہ سرخ رنگ کے دھاگے

کی نو تاریں لیں۔ اکٹھا کر کے سورہ العنشرح پڑھنا شروع کریں اور ہر ایک کاف پر گرہ وے کر دم کریں۔ اس کے بعد تین بار پوری سورہ پڑھ کر دھاگے پر دم کریں اور مریض کے گلے میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ شفا ہوگی۔

برائے ام الصبیان | درج ذیل لکھ کر تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں باندھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ
كَلِمَاتٍ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ
فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ دَلَّ اَحْوَلَ
وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیْمِ۔

برائے واو چنبل | یہ آیت تیل پر سات مرتبہ دم کر کے تیل کو چنبل پر

ن میں دو بار لگائیں۔

مَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِّثَةٍ نَّاجَتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ

مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

برائے نواف | یہ آیت مبارکہ لکھ کر تعویذ بن کر نواف پر باندھیں۔ ان شاء اللہ نواف اصل حالت پر آجائیگی۔

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَهُ وَرَحْمَةٌ

دیگر | یہ نقش لکھ کر بازو پر باندھیں۔ ان شاء اللہ نواف اصل مقام پر آجائے گی۔

یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا رحمن
یا اللہ یا رحمن	مریض کا نام	یا اللہ یا رحمن
یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا رحمن	یا اللہ یا رحمن

برائے یروتان | پوری سورۃ البینۃ لکھ کر گلے میں باندھیں اور دھو کر چند دن پلائیں۔

برائے پتھری مثانہ | پیشاب کی تنگی، پتھری، ریگ کیلئے درج ذیل آیات لکھ کر مریض کو پلائیں۔

وَإِذَا سْتَسْقَىٰ مُفْسِدِينَ (سورۃ البقرہ آیت ۶۰)

قُلْ كُونُوا يَكُونُ قَرِيبًا (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۰-۵۱)

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا هِيَ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا (سورۃ الراتقہ آیت ۵-۶)

وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (سورۃ الحاقۃ آیت ۱۴)

ان شاء اللہ تکلیف دور ہو جائے گی۔

دیگر | اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کے گلے میں باندھ دیں۔ ان شاء اللہ پیشاب جاری ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - لَمْ یَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ
بَدَاغٌ فَهَلْ یُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الْفٰسِقُوْنَ - (سورہ احقاف آیت ۳۵)

برائے دفع گلہڑ | عروج ماہ میں بدھ کے دن نابالغ لڑکی سے اتنا لمبا
دھاگا کتوا کر تیار رکھیں جو مریض کے گلے میں پورا آجائے
جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد مشتری کی ساعت میں بصورت قعدہ بیٹھے
کسی سے کلام نہ کرے۔ پہلے تیس بار درود شریف پھر گیارہ بار سورہ فاتحہ مع
بسم اللہ پڑھ کر دھاگے پر ایک گرہ لگائے۔ اسی طرح سات گرہیں لگائے آخر
میں پھر تیس مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ دھاگا مریض کے گلے میں اس طرح باندھے
کہ گلے کے ساتھ لگا رہے۔ جب دھاگا ڈھیلا ہو جائے تو کس دیا کرے۔ دھاگا
باندھنے سے پہلے کوئی شریقی منگا کر حضرت عنوت اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو فاتحہ پڑھ کر خیرات کر دے۔ ان شاء اللہ مرض ختم
ہو جائے گا۔

برائے جس بول | اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو یہ آیت مبارکہ پلیٹ
پر لکھ کر دھو کر پلائیں

وَ اِذَا سْتَسْقٰی مُوسٰی لِقَوْمِہٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَاَنْفَجَرَتْ مِنْہٗ اثنًا عشرہ عِیْنًا ط قَدْ عَلِمَ کُلُّ اِنْسَانٍ
مَّمْرَبَهُمْ ط کُلُّوا وَاَشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِی
الْاَرْضِ مَفْسِدِیْنَ ۔

ویگر | درج ذیل آیت مبارکہ دو کاغذوں پر لکھیں۔ ایک اس کے گلے
میں ڈال دیں اور دوسرے کو پانی میں گھول کر پلا دیں۔ ان شاء
اللہ پیشاب کھل جائے گا۔

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَائِعًا مُتَصَدِّعًا
مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِيبِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ .

برائے زیادتی شیر | کسی عورت یا گائے بھینس وغیرہ کا دودھ کم ہو جائے
یا نہ آئے تو درج ذیل آیت مبارکہ با وضو اذل و
آخر دود پاک سات بار اور پھر یہ آیت سات بار پڑھ کر نمک پر دم کریں
عورت یہ نمک کھائے یا لسی وغیرہ میں ڈال کر پی لے۔ جانوروں کو یہ نمک
آٹے کے پیڑے میں ملا کر کھلائیں۔ ان شاء اللہ دودھ بڑھ جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

دیگر | اول و آخر دود پاک تین تین بار، یہ آیت مبارکہ پانی پر دم کر
کے دن میں دو تین بار پلائیں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
تَسْوِئًا ۗ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ وَإِنَّ
مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

برائے حمل عورت / جانور | جس عورت یا گائے بھینس وغیرہ کو حمل نہ
ٹھہرتا ہو تو درج ذیل آیت مبارکہ مع بسم اللہ
اور باضافہ ضمناً ساٹھ عدد لکھیں۔ اور ایک روز انہ کھلائیں۔ جانوروں کو آٹے

کے پڑے جبکہ عورت کو جیسے چاہیں کھلائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - رَبِّ لَا تُذِرْنِیْ فَرْدًا اَصْمَدًا وَ
اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ -

برائے حفاظت حمل | اگر حمل گر جاتا ہو یا نہ ٹھہرتا ہو تو یہ آیات مبارکہ
لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باندھیں۔

اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰی وَ مَا تَغِیْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا
تُزَادُ وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِمِقْدَارٍ ہ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّہَادَۃِ
الْکَبِیْرُ الْمُتَعَالِ ہ

دیگر | حسب ضرورت فلفل سیاہ اور اجوائن صاف کر کے لیں۔
پیر کے دن بعد نماز ظہر اول درود شریف پھر سورہ وَالشَّمْسِ پڑھیں۔
پھر درود شریف پھر سورہ یعنی چالیس بار سورہ مبارکہ اور اکتالیس بار درود شریف
پڑھ کر ہر بار دم کریں۔ حاملہ ہر روز ایک دو کالی مرچ اور تھوڑی سی اجوائن
کھالیا کرے۔ ان شاء اللہ حمل محفوظ رہے گا۔ ابتدا حمل سے دودھ چھڑانے
تک کھائے۔

دیگر | یہ آیت مبارکہ لکھ کر حاملہ کے گلے یا کمر میں باندھیں۔ ان شاء اللہ
حمل محفوظ رہے گا۔ نیز یہ گائے بھینس کے لیے بھی مفید اور جس
درخت کے پھل گرتے ہیں ان کو بھی باندھیں۔

وَلِیْسَتْوَ اِیْنَ کَہْفِہِمُو ثَلَاثَ مِائَۃِ سِنِیْنَ وَ اَزْدَادُو تَسْعَا۔

دیگر | سورہ آل عمران کی آیات ۳۵ تا ۳۷ یعنی اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ سَلْمَہُ
بِعَذْرِیْ جَابِ بِتَمَّ لَکَہُ کَرَامَلہُ کَہُ لَکَہُ مِیْنِ اس طرح ڈالیں کہ تعویذ کو کھ پر رہے۔

برائے بانجھپن | یہ آیت مبارکہ لکھ کر گلے میں ڈالیں اور اکیس دن
یہی آیت لکھ کر عاقر کو پینے کو دیں۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ
كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ. بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَبِيئًا.

دیگر | چینی کی پلیٹ پر زعفران و عرق گلاب سے لکھ کر بعد طہارت میاں
بیوی سات دن تک پسیں اور ہم بستر ہوں۔ اور یہی آیت مبارکہ
برن کی جھلی پر لکھ کر دونوں کمر پر باندھیں۔ لیکن ہم بستری کے وقت اتار
دیا کریں۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

برائے اولاد نریتم | یہ آیت مبارکہ جمعہ یا اتوار کے دن لکھ کر حاملہ کو
پہنا دیں۔ اس طرح کہ تعویذ ناف کے قریب رہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ
يُحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا.

دیگر | جب حمل کو ڈھائی ماہ ہو جائیں تو خاوند با وضو ہو کر بیوی کی ناف
کے گرد انگلی سے دائرہ لگائے اور یامتین کہے اسی طرح ستر بار
دائرہ بھی لگائے اور یامتین بھی کہے۔ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لے۔
اسی طرح گیارہ دن تک کرے۔ ان شاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

دیگر | جس عورت کے اکثر لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں۔ جب حمل کو ڈھائی ماہ
ہو جائیں تو مٹی کا نیا پیالہ لیں۔ اس میں پاک و صاف پانی ڈالیں۔ صبح
کی نماز کے بعد با وضو ہو کر یہ پڑھ کر دم کریں۔ درود شریف۔ سورۃ فاتحہ۔

آنہ۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ۔ پڑھنے والا نیک پر سیزگار ہو۔ سات دن تک پلا میں۔ ان شاء اللہ فرزند زریہ پیدا ہوگا۔

دیگر | جب حمل کو تقریباً ڈھائی ماہ ہو جائیں۔ حاملہ لیٹی ہو تو اس کا خاوند با وضو ہو کر حاملہ کی ناف پر ہاتھ رکھ کر تین بار یہ دعا پڑھے۔ ان شاء اللہ لڑکا ہوگا۔ پیدائش کے بعد وہ نام رکھیں جس میں مستد آئے۔

لَمْ يَخْرُجْ مِنْ كُنْتِ خَلَقْتَ خَلْقًا فِي بطنِ هَذِهِ الْمَرْءِ فَكُونَتْهُ
ذَكَرًا وَاسْمِيهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي
فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ آمِينَ وَنِيسَاكَرُ

انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا | جس کے اولاد نہ ہوتی ہو یا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں یا حمل ساقط ہو جاتا ہو یا پیدائش کے بعد مر جلتے

ہوں تو یہ عمل کریں۔ ان شاء اللہ معاملہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اور لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ کچے سوت کے ساتھ تار عورت کی چوٹی سے پاؤں کی انگلی تک لمبے یس ساتوں تاروں کو ملا میں اور اس پر سات گرہیں لگائیں مگر اس طرح کہ ہر گرہ پر گیارہ بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے جائیں۔ اس دھاگے کو بچے کے پیدا ہونے تک عورت اپنی کمر میں باندھے حتیٰ کہ غسل کے وقت بھی دور نہ کرے۔ جب اس کے آثار ظاہر ہوں تو گھر میں کھیر چکا کر حضور سیدنا عوث پاک رحمۃ اللہ کی فاتحہ دلا میں اور دو رکعت نماز ادا کریں۔ پھر عورت کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف منہ کرے۔ عرض کرے کہ یا عوث اعظم اگر میرے لڑکا پیدا ہوا تو حضور کی غلامی میں دوں گی۔ اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی۔ یہ یقین رکھے کہ ان شاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ جب پیدا ہو تو غسل و اذان کے بعد عورت وہ گنڈا اتار کر بچے کے

گلے میں ڈال دے۔ اور گیارہ سال تک رکھے۔ گیارہ سال کا بچہ ہو جائے تو حسب توفیق کسی میٹھی چیز کی نیاز دلائے اور اس گنڈے کو اتار کر کسی محفوظ جگہ دفن کر دے۔

جو شخص درج ذیل کو ہر نماز کے بعد بطور دعا پڑھا کرے اس کی اولاد اور بیوی صالح اور نیک ہو جائیں گے۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

دیگر | اولاد کو نیک اور صالح بنانے کیلئے ہر نماز کے بعد اکثر پڑھا کریں۔

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَفَانَتْ وَبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ.

دیگر | ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے ان شاء اللہ اولاد صالح ہو جائے گی۔

برائے حفاظت اطفال | درج ذیل عبارت کو لکھ کر تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِذْ آتَتْ
كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ
رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ إِسْمِهِ
شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

ماریس

اگر کسی ماریس کو کسی بھی علاج سے شفا نہ ہو اور کوئی بھی بیماری ہو تو یہ آیت مبارکہ با وضو ہو کر تین سو بار پانی پر دم کر کے چند دن پلائیں۔ ان شاء اللہ شفا ہوگی۔

فَإِذَا نَسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

مسحور اور ماریس علاج ماریس کیلئے

جس کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو اور اس کی بیماری سے طبیب عاجز ہو گئے ہوں تو چینی کے سفید برتن پر یہ عبارت لکھ کر چالیس روز تک روزانہ پلائیں۔ ان شاء اللہ شفا پائیگا۔

حِينَ لَا حَيَّةَ فِي دَيْمُومَةٍ مُلْكِهِ وَبِقَائِهِ يَا حَيُّ

اس کے بعد اگر سورہ فاتحہ کا اضافہ کر لیا جائے تو سونے پر سہاگہ ہے۔

جو شخص عورت پر قادر نہ ہو تو پاک صاف برتن پر سورہ البیتہ لکھ کر دھو کر پی لے۔ تین دن ایسا کرے۔ ان شاء اللہ پوری طاقت ہوگی۔

عدم قدرت برزن

دو انڈے اُبال کر چھیل لیں۔ ایک انڈے پر یہ آیت مبارکہ لکھیں۔

السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ - یہ مرد کو کھلا دیں۔

دوسرے انڈے پر یہ آیت مبارکہ لکھیں۔

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ - یہ عورت کو کھلا دیں۔

ان شار کاوٹ دور ہوگی۔ (عمل: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ)

دیگر تین انڈے ابال کر پھیل لیں۔ ایک انڈے پر یہ آیت لکھیں۔

قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُ بِهٖ السِّحْرَہٗ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُہٗ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ۔

دوسرے انڈے پر یہ لکھیں۔

اُولَئِیْرَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ اَفَلَا
یُؤْمِنُوْنَ۔

تیسرے انڈے پر یہ لکھیں۔

وَقَدْ مَنَّآ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ جَعَلْنٰہٗ ہَبَاءً مَّنْثُورًا۔

اور مسحور کو کھلا دیں۔ سحر کا اثر ختم ہوگا اور وہ قادر ہوگا۔

اولاد باغی ہو کہنا نہ مانے یا کوئی جانور
اولاد / غلام / سواری مطیع ہو | سواری کے وقت شوخی کرے یا کوئی

غلام یا لونڈی فرمانبردار نہ رہے تو یہ آیت مبارکہ تین بار پڑھ کر اس کے کان
میں پھونک ماریں۔ چند روز عمل کریں ان شار الشریطع ہوگا۔

اَنْغَیْرِ دِیْنَ اللّٰهِ یَبْغُوْنَ وَ لَہٗ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْہًا وَّ اِلَیْہِ یُرْجَعُوْنَ۔

اگر کوئی غلام یا کنیز فرمانبردار میں نہ رہے تو اس کی پیشانی کے بال
دیگر | پکڑ کر تین مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ ان شار الشریطع ہو جائے گا۔

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا ہُوَ اٰخِذُہَا

بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

کتا یا موذی جانور سے امن اگر راستے میں کتا، شیر یا کوئی اور موذی جانور شور مچائے تو یہ آیت کریمہ پڑھ

یا کرے۔ وہ جانور خاموش ہو جائے گا۔

كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ .

تحصیلِ عِلم و حفظِ قرآن جس کا حافظہ کمزور ہو یا علم کے حصول میں

دشواری ہو تو پوری سورۃ اللّٰہِ نَشْرَحُ مَع

بِسْمِ اللّٰہِ پلٹ پر لکھ کر دھو کر کم از کم اکیس دن روزانہ پلائیں۔ علم کا حصول آسان ہوگا۔ حفظ قرآن کیلئے بھی مفید ہے۔

دیگر ہر نماز کے بعد آیت مبارکہ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کثرت سے پڑھا کریں۔

دیگر عِلم کی ترقی اور ذہن کی کشادگی کے لیے درج ذیل آیات مبارکہ نماز فجر کے بعد کثرت سے پڑھا کرے۔

رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي . وَاَحْلِلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسَانِي .

دیگر قوتِ حافظہ کے لیے درج ذیل آیات طشریٰ پر لکھ کر آب زمزم سے دھو کر بچے کو پلائیں۔ سورہ الرحمن کی ابتدائی چھ آیات التَّوْحِيْدُ يَسْجُدَانِ . سورہ القیامتہ کی آیات ۶ تا ۱۹ اَلَا تَحْزَنُ عَلَيْنَا بَيِّنَاتُه . سورہ البروج کی آخری دو آیات بَلْ هُوَ نُوْحٍ مَّحْفُوْظ .

ضرر و زہر سے پیشگی حفاظت کسی کھانے یا چیز میں زہر یا نقصان کا خدشہ ہو تو کھانے سے پہلے یہ دعا

پڑھ لیا کریں۔ محفوظ رہیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرٌ اِلَّا سَمَاءِ بِسْمِ
اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ
اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ -

ہر نماز کے بعد آیت مبارکہ وَاللّٰهُ یُعِصْمُكَ
مِنَ النَّاسِ ۲۱ بار پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں

سے محفوظ رکھے گا۔

رات کو سوتے ہوئے جس وقت آنکھ کھلے۔ لیٹے لیٹے اسی حال
میں یہ آیت مبارکہ ۱۰۱ بار پڑھیں۔ وضو ضروری نہیں۔ دل میں دشمنوں
کی ذلت کا خیال رکھیں۔ چند دنوں میں ہی دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔

فَسَیَكْفِیْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ -

با وضو ہو کر ان آیات مبارکہ کو لکھ کر بازو پر باندھ لیں۔ ان شاء اللہ
دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ان کی زبان بند ہو جائیگی۔

یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدَّاعِیَ وَلا هُمْ یُجِزُونَ (سورہ طہ آیات ۱۰۸ تا ۱۱۲)

مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا ایک سو تیرہ بار اول و آخر
گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں۔ ان شاء اللہ دشمنوں کے شر
سے خدا محفوظ رکھے گا۔

نظر بد سے نجات
جس بچے کو نظر بد لگ جائے یا ضد کرے یا سوتے
میں ڈرتے تو آخری دونوں سورتیں یعنی الفلق اور

الناس تین تین بار پڑھ کر دم کریں۔ اور یہ لکھ کر گلے میں ڈالیں۔

یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنْ اسْتَعْصَمْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ نَّبِإِي
 آتَاكُمْ رَبِّي لَتَكْذِبَنَّ أَعْتَادُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ
 شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لِأُمَّةٍ.

دیگر | رت ذیل کلمات لکھ کر گلے میں ڈالیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لِأُمَّةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي
 لَا يَضُرُّ مَعَ سُمِّهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ.

دیگر | گیارہ عدد سرخ مرچ لے کر ان پر آخری تینوں سورتیں پڑھ کر دم کریں
 اور مریض کے سر پر سے پانچ سات مرتبہ وار کر آگ میں ڈال دیں۔
 اس دوران آخری تینوں سورتیں تین تین بار پڑھ کر دم بھی کرتے رہیں۔

دیگر | یہ پڑھ کر نظربد کے مریض کو دم کریں۔

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ
 أَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

حفاظت از چوری | جو کوئی شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یعنی اَمِنْ
 الرَّسُولِ بِمَا أُنزِلَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

پڑھ کر رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ چوری اور ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔

دیگر | جو کوئی رات کو سوئے وقت تین بار آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اللہ
 کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہو جاتا ہے جو اسکی حفاظت کرتا ہے۔

دیگر جو شخص سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات قُلِ ادْعُوا اللَّهَ دُ
 كِتْرَهُ تَكْبِيرًا۔ صبح اور شام کو اکثر پڑھا کرے تو اس کے گھر چور
 نقصان نہ کر سکے گا۔ (حدیث پاک)

حفاظت کھیت و باغ | یہ آیات مبارکہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورہ ابراہیم

آیات ۲۴-۲۵) کسی پلیٹ پر لکھ کر اور دھو کر اس پانی میں ڈالیں جو کھیت کو
 لگے کھیت یا باغ سرسبز و شاداب ہوگا اور کثرت سے پھل لگے گا۔

دیگر | درج بالا مقاصد کے لیے آیت مبارکہ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
 لَا آتِ يَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورہ الانعام آیت ۹۹) بھی نہایت
 کارآمد ہے۔

دیگر | کھیت کی ہریالی، عمدہ پیداوار اور زیادہ پھل کے لیے یہ آیت
 مبارکہ زعفران و عرق گلاب سے لکھ کر اس کو پانی میں گھول دیں۔
 قابل کاشت بیج یا غلہ اس پانی میں بھگو کر کاشت کریں۔ یا یہ پانی اس درخت
 یا پودوں کی جڑوں میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ برکت، حفاظت اور خوب پیداوار
 ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ فَلَقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ
 يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَآقِ تَوَفَّكُونَ۔

برائے فراخی رزق | جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سلام پھرتے
 ہی ایک بار آیتہ الکرسی اور ایک بار یہ آیت

مبارکہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی روزی فراخ کر دے گا۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

دیگر ہر نماز کے بعد خصوصاً صبح شام سات بار یہ آیات مبارکہ پڑھ لینے
سے رزق میں بھی فراخی ہوگی اور قرض بھی ادا ہو جائے گا۔
(ان شاء اللہ تعالیٰ)

اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُوِّقِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءِ وَتَنْزِعِ الْمُلْكَ مِنْ
تَشَاءِ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَيِّجُ النَّهَارَ فِي
الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ
تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

دیگر ہر نماز کے بعد سورہ العنشر کی بارہ بار یا سورہ القدر کی بارہ بار
پڑھا کریں۔ اول و آخر درود پاک تین تین بار اللہ تعالیٰ بغیر مشقت
کے رزق وافر عطا کرے گا۔

دیگر حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر سورہ یسن اور بعد نماز عشاء سورہ
واقعہ کی تلاوت رزق میں فراخی کا باعث ہے۔

دیگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص استغفار کو
اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے
نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے۔

دیگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر روز یا مغنی
کی بارہ سو مرتبہ اور سورہ منزل چالیس یا کی بارہ مرتبہ پڑھنے سے غنائے
دلی اور ظاہری حاصل ہوتی ہے۔

دیگر روزانہ بعد نماز مغرب یا عشر سورہ منزل گیارہ مرتبہ پڑھا کریں۔ اور
دیگر جب فاتحہ و کھیل پڑھیں تو پچیس مرتبہ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ
 الْوَكِيلُ پڑھا کریں۔ ان شاء اللہ ہر طرح کی تنگ دستی اور مفلسی دور ہو جائے
 گی۔ اس عمل سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آخر میں بھی درود
 پاک پڑھیں۔

دیگر ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھنے سے یا بعد نماز فجر
 ستر مرتبہ پابندی سے پڑھنے سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔
 اللهُ لَطِيفُ بَعْبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔
دیگر حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو پوری سورہ واقعہ
 پڑھا کرے اسے کبھی تنگی نہیں آئے گی۔

برائے ترقی و آمدن دکان یہ آیت مبارکہ جمعرات کے دن کسی
 نیک اور طالع مند شخص کے کرتے کے
 کے ٹکڑے پر لکھ کر دکان میں لٹکا دے ان شاء اللہ خوب آمدنی ہوگی۔
 إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيمِ ۝

دیگر جمعہ کی نماز کے بعد جب سب فارغ ہوں تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر
دیگر دکان یا مکان میں رکھیں۔ ان شاء اللہ رزق میں فراخی اور تجارت
 میں برکت ہوگی۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
 فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝

برائے دفع غم و حل مشکلات

اگر کوئی شخص ان آیات مبارکہ کو
ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیا

کرے اس کی ہر مصیبت اور مشکل آسان ہوگی۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
الْعَرُشِ الْعَظِيمِ ۝

(سورۃ التوبہ، آخری دو آیات)

دیگر | سند احمد میں یہ دعا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے
رنج و غم دور فرمادیتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ
إِنَّ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا ضَيَّعْتُ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي
قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ
أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ سَتَأْتُرَتْ
بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِيحَ قَلْبِي وَنُورَ
صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذِهَابَ هَمِّي -

دیگر | حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کثرت سے
پڑھے تو اس کے تمام رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔

دیگر | علماء فرماتے ہیں رنج و غم کے دفعیہ کے لیے ہر نماز کے بعد پوری
سورۃ الْكُوْشُرُحِ سات مرتبہ پڑھا کریں اور سوتے وقت اول و
آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں یہی سورت سترہ مرتبہ پڑھ کر
سینے پر دم کر لیا کریں۔

دیگر | بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء چار رکعت نفل بہ نیت دفع مصائب
و مشکلات اس طرح پڑھتے رہا کریں۔ اول رکعت میں بعد فاتحہ لا اِلهَ

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجِّنَاهُ مِنَ
 الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. .. ابارہ۔ دوسری رکعت میں بعد فاتحہ
 رَبِّ إِنِّي مَتَّعِنِي الضُّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. .. ابارہ۔ تیسری رکعت میں
 بعد فاتحہ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. .. ابارہ چوتھی
 رکعت میں بعد فاتحہ. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
 .. ابارہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ الصَّيْرُ. .. امر تہ پڑھ
 کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مشکلات و مصائب کے دفعیہ کیلئے دعا مانگا کریں۔
 جو کوئی آیت مبارکہ ذیل کو مصیبت کے وقت پڑھا کرے۔
دیگر انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

دیگر سورہ یس کو روزانہ پڑھا کریں جب آیت مبارکہ سَلَامٌ قَوْلًا
 مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ۔ پرائیں تو اس آیت کو بہتر (۴۲) بار پڑھیں پھر پوری
 سورت پڑھ کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ غم و اندوہ سے نجات دیگا۔

دیگر ہر نماز کے بعد سات بار آیت مبارکہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
 پڑھنے سے ہر آفت و مصیبت دور ہوگی۔

دیگر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کو بارہ ہزار بار پڑھیں مگر اس طرح
 کہ ہر ہزار کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر اپنی حاجت کی دعا کرے ان شاء
 اللہ ان کی حاجت پوری ہوگی۔

حروف مقطعات ان کو حروف نورانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو لکھ کر
 اپنے پاس رکھنے یا گھر میں رکھنے یا کھیت وغیرہ
 میں رکھنے سے ہر بلا و آفت سے محفوظ رہے گا۔ ان کو پڑھنے سے دشمنوں

کے شر سے محفوظ رہے گا۔ موذی جانوروں سے بچا رہے گا۔ رزق ملے گا۔ ضرورت پوری ہوگی۔

الْعَا - الْمَثَصَّ - الْاَزْ - الْاَمْرَ - كَهَيْعَصَ - طَه - طَسَّو -
طَسَّ - يَسَّ - ص - حَمَسَقَ - ق - ن -

خاص آیات درج ذیل آیات مبارکہ کو زعفران و عرق گلاب سے لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً دل میں طاقت، دشمن پر رعب، لوگوں میں عزت، محتاجی ختم، خوف سے امن، قرض دور، فکر و غم ختم، سفر میں حفاظت، نکاح کا ہو جانا، دکان میں خیر و برکت، بچوں کی ہر بلا سے حفاظت، ہر حاجت کا پورا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

الْعَا ذِكُّ الْكِتَابِ هُوَ الْمُفْلِحُونَ - تک۔ (سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات۔)

الْعَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ - تک
(سورہ آل عمران، پہلی چار آیات)

الْمَثَصَّ - كِتَابٌ أَنْزَلَ لِلْمُؤْمِنِينَ - تک (سورہ الاعراف پہلی دو آیات)
الْمَثَصَّ - تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ لَا يُؤْمِنُونَ - تک -
(سورہ الرعد - پہلی آیت)

كَهَيْعَصَ زَكْرِيَّا - تک (سورہ مریم - پہلی دو آیات)

طَه لِتَشْقَى - تک (سورہ طہ پہلی دو آیات)

طَسَّو - تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ - (سورہ الشعراء پہلی دو آیات)

لَيْسَ . وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ه (سورہ نسن۔ پہلی دو آیات)
 مَن شِقَاقِ تَكَ (سورہ ص۔ پہلی دو آیات)
 حَمَّ . تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ ... الْمُصِيزِ تَكَ
 (سورہ المؤمن پہلی تین آیات)

حَمَّ . عَسَقَ الْحَكِيمِ تَكَ (سورہ الثوری۔ پہلی تین آیات)

قَ . وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ه (سورہ ق پہلی آیت)

نَ . وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ . (سورہ القلم پہلی آیت)

برائے دفع نظر بد | آخری دونوں قل شریف پوری سورتیں تین
 تین بار پڑھ کر دم کریں۔ اور یہ تعویذ لکھ کر گلے
 میں ڈالیں۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتِطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَدُّوا مِنْ أَقْطَارِ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَدُوا وَالْآتِنْفَدُونَ الْإِسْطَانِ .
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ . أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لِأُمَّةٍ .

دیگر | کلمات ذیل لکھ کر گلے میں ڈالیں نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لِأُمَّةٍ . بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي
 لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّبِيعُ
 الْعَلِيُّ .

دوسووں سے نجات | جب دوسو سے آئیں تو یہ پڑھ لیا کریں۔

۱۔ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُلِهِ۔ يَا

۲۔ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔ يَا

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھ کر تین دفعہ یا اس طرف

تھوک دے۔ يَا

اگر دوسو سے بہت زیادہ آتے ہوں تو سورہ الناس سو مرتبہ روزانہ

پڑھا کریں۔

برائے دفعِ محسّر۔ جادو | درج ذیل آیت مبارکہ چینی کی پلیٹ

پر زعفران و عرقِ گلاب سے لکھ کر اس

پر تھوڑا سا شہد ڈال کر ملا کر مریض کو چٹائیں۔ ان شاء اللہ محسّر کا اثر

زائل ہوگا۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ تَعْرِ

يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَاَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔ (سورہ النسا آیت ۱۰۰)

درج ذیل آیات محسّر کے ازالہ کے لیے بہت مفید ہیں۔

دیگر | لکھ کر پلائیں اور گلے میں بھی ڈالیں۔

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُوْنِيْهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ

سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ

بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ (سورہ یونس آیات ۸۱-۸۲)

دیگر آیات مبارکہ یٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ.....
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورہ الاعراف ۳۱-۳۲) زعفران سے لکھ کر
 پلانے سے سحر جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔

دیگر آیت مبارکہ وَاتَّبِعُوا مَا نَتَلُوا..... لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ آیت ۱۰۲) لکھ کر مریض کو پلائیں۔ گھر میں چھڑکیں۔ تو جادو وغیرہ
 کا اثر ختم ہو جائے گا۔ مسور کو اس پانی سے غسل بھی دیا جاسکتا ہے۔

دیگر دریا یا نہریاں کتوں کا پانی ایک گھڑے میں بھریں۔ اور اس پر
 ۱۔ گیارہ مرتبہ درج ذیل آیات قَلَمًا الْقَوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُكَ
 بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ

اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (سورہ یونس آیات ۸۱ تا ۸۲)
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَعَلِبُوا هَذَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ وَالْقَى السَّحْرَةَ
 سَجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

(سورہ الاعراف آیات ۱۱۸ تا ۱۲۲)

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَقَىٰ-

(سورہ طہ آیت ۶۹)

۲۔ گیارہ مرتبہ سورہ فلق۔ ۳۔ گیارہ مرتبہ سورہ اناس پڑھ کر پھونک ماریں۔
 اس پانی سے تین گھونٹ مریض کو پلائیں۔ باقی پانی سے غسل کرائیں۔ اتوار
 کے دن سے یہ عمل شروع کریں اور بلاناغہ چالیس دن تک کریں۔ کنویں کا پانی
 نہ ملے تو نلکے کا پانی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

دیگر درج ذیل عبارت چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر چالیس دن
 تک پلائیں۔ ان شاء اللہ جس جادو والی بیماری سے طبیب عاجز

آگے ہوں شفا ہوگی۔

برائے دفع جن، آسیب وغیرہ | اگر کسی مکان، گھر میں جنات کی رہائش ہو تو کسی پاک برتن

میں پانی لے کر اول درود شریف تین بار پھر سورہ فاتحہ دو بار پھر آیت الکرسی تین بار پھر سورہ جن کی پہلی پانچ آیات **قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ... عَلَى اللَّهِ كَذِبًا** پڑھ کر دم کر کے یہ پانی مکان کے اندر چھڑکیں۔ ان شاء اللہ اس مکان سے جنات دور ہو جائیں گے۔ نیز مریض کو بھی یہ پانی پلا لیں۔ ہوش میں آجائے گا۔

جنات کے دفعیہ کیلئے حرز ابی وجانہ | جو شخص اس نامہ مبارک کو لکھ کر

اپنے پاس یا اپنے گھر میں رکھے وہاں سے جنات دور ہو جائیں گے۔ اور دوبارہ نہیں آئیں گے۔ نیز جن کے زیر اثر مریض کے گلے میں لکھ کر ڈالا جائے۔

هَذَا كِتَابٌ مِنْ تَسْمِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْ
طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعَمَادِ وَالزُّوَارِ الْأَطَارِقَ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
أَمَا بَعْدُ فَإِن لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةٌ فَإِن تَدْعَانِ شِفَاءَ مَوْبِعَا
أَوْ قَاجِرًا مُقْتَحِمًا أَوْ رَاغِبًا مُبْطِلًا فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْطِقُ
عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ
رُسُلَنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ أَتُرْكُوا صَاحِبَ كِتَابِي
هَذَا وَأَنْطَلِقُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَإِلَى مَنْ يَزْعَمُ أَنَّ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حَوْلًا يُنْصَرُونَ حَمْدًا

تَفَرَّقَ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ فَسَيَكْفِيكُمْهُ اللَّهُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

دیگر | سورہ ص کی آیت مبارکہ ۳۴ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ. ۲۔ سورۃ فاتحہ ۳۔ سورہ اخلاص ۴۔ سورہ فلق ۵۔ سورہ الناس ۶۔ سورہ طارق کی آخری تین آیات اور ۷۔ سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھ کر مریض کے کان میں پھونک ماریں جن کا وجود حل جائے گا۔ اور مریض کو شفا ہوگی۔

دیگر | سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات اَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا... وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ پڑھ کر آسیب زدہ مریض کے کان میں پھونکیں ان شاء اللہ آسیب دور ہو جائے گا۔

دیگر | پوری سورہ جن پڑھ کر آسیب زدہ پر دم کریں۔ یا لکھ کر بازو پر باندھ دیں۔ یا پوری سورہ بقرہ پڑھ کر گھر میں پھونکیں ماریں۔ جن یا آسیب سے نجات ہوگی۔

وساوس سے نجات | جس کو انسانی دوسوں سے بہت آتے ہوں تو وہ درج ذیل عبارت کثرت سے پڑھا کرے ان شاء اللہ دوسوں سے محفوظ ہو جائے گا۔

رَبِّ اعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ه

دیگر | ہر نماز کے بعد ۱، سورۃ فاتحہ (۲) آیت الکرسی (۳) شہد اللہ انہ لآ اِلهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. لا اِلهَ

مَا لِكَ الْمُلْدِ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ایک ایک بار (۶) آخری تینوں قل شریف تین تین بار پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پر پھیر لے ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ رہے گا۔

سحر مدفون کا معلوم کرنا | اگر گھر میں کوئی جادو والی چیز مثلاً تعویذ وغیرہ دفن کی گئی ہو تو سورۃ کوزت یا تکویر کی روزانہ گھر میں تلاوت کریں۔ چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کہاں ہے۔

مرض یا سحر کا معلوم کرنا | مریض کا ایسا کپڑا لیں جو رات کو پہن کر سویا ہو۔ پہلے اس کی پیمائش کر لیں کہ کتنا لمبا ہے۔ پھر اس کپڑے پر تین بار سورہ فاتحہ پڑھیں پھر سورہ الصفت کی پہلی گیارہ آیات لازب تک پھر سورہ الجن کی پہلی چار آیات شططا تک پھر سورہ الفلق اور سورہ الناس ایک ایک بار پڑھ کر دم کریں۔ اگر کپڑا بڑھ جائے تو شیاطین کا اثر ہے۔ گھٹ جائے تو جحش یا جادو ہے۔ اگر برابر رہے تو پھر جسمانی بیماری ہے۔

دو آیتیں تین کام | یہ دو آیات مبارکہ تین کاموں کیلئے انتہائی مفید ہیں۔

قَدْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يُّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يُّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَلِيْمِ

(سورہ آل عمران آیات ۷۲-۷۴)

۱۔ جمعرات کے دن کسی نیک آدمی کے کرتے کے ٹکڑے پر لکھ کر دکان وغیرہ میں لٹکا دے خوب آمدنی ہوگی۔

۲۔ کاغذ پر لکھ کر بیکار آدمی کے بازو پر باندھ دیں۔ روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔

۳۔ کہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہو تو اس کے بازو پر باندھ دیں۔ پیغام منظور ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

دفع غصۃ حاکم | اگر حاکم خفا ہو تو اول تین بار بسم اللہ پڑھے پھر کہ لیغص ہر حرف اس طرح پڑھے کہ ک پڑھ کر داہنے ہاتھ کی چھنگلی کو بند کرے۔ ہر اس کے ساتھ والی انگلی پر درمیانی انگلی پر شہادت والی اور ص پر انگوٹھا بند کر لے پھر حوا۔ عسق کے حروف پڑھے اور اسی ترتیب سے بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر لے۔ اسی طرح مٹھیاں بند کیے ہوئے حاکم کے سامنے جا کر کھول دے۔ ان شاء اللہ حاکم مہربان ہوگا۔

دیگر | درج ذیل آیت مبارکہ پڑھا کرے یا لکھ کر بازو پر باندھ لے۔ حاکم مہربان ہو جائے گا۔

نَسِيكَفِيكَهُوَ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (سورہ البقرہ آیت ۱۳۷)

دیگر | یہ آیت مبارکہ گو اتینہم من ایۃ آیتینہ وومن یتبدل نعمۃ اللہ من بعد ما جاءته فان اللہ شدید العقاب۔ سورہ البقرہ آیت ۲۱۱ تین بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے جابر حاکم کے سامنے جائے ان شاء اللہ مہربان ہوگا۔

گم شدہ چیز کی بازیابی | اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے رہیں اور گم شدہ چیز کو تلاش کرتے رہیں بل جائے گی۔

دیگر | سورہ واضعی پوری سات بار پڑھ کر چیز تلاش کریں ان شاء اللہ

مل جائے گی۔

بھاگا ہوا شخص واپس آتے | اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر چرنے کے ساتھ باندھ کر چالیس دن تک روزانہ ساٹھ مرتبہ چرنے کو اٹھا گھمائیں ان شاء اللہ وہ شخص واپس آجائے گا۔

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(سورہ القصص آیت ۱۳)

دیگر | ان دونوں آیات مبارکہ میں سے کوئی ایک آیت ۱۱۹ مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھے تو ان کی برکت سے ان شاء اللہ بھاگا ہوا شخص واپس آجائے گا۔

(۱) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

(سورہ القصص آیت ۸۵)

(۲) يُبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ

أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

خَبِيرٌ (سورہ لقمن آیت ۱۶)

واپسی چور | یہ آیت مبارکہ وَبِكُلِّ وِجْهَةٍ مَّا مَوْلٰیہَا فَاسْتَبِقُوا الخیرت مٰ آین مٰ تکونوا آیات بکرم اللہ جمیعا | ان شاء اللہ علیٰ کل شیءٍ قدیر۔ (سورہ البقرہ آیت ۱۲۸) کو کورے کپڑے کے گول ٹکڑے پر لکھ کر اس میں چور یا بھاگے ہوئے شخص کا نام لکھ کر جس مکان میں چوری ہوئی ہو یا کوئی شخص بھاگا ہو اس کی دیوار میں میخ سے گاڑ دیں انشاء

اللہ چوری کا مال یا چور یا بھاگا ہوا شخص واپس آجائے گا۔

دیگر | یہ آیت مبارکہ قُلْ اِنْدَعُوْا رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (سورہ الانعام آیت ۱۷۱)

پرانی مشک کے ٹکڑے یا خشک کدو کے چھلکے پر گول دائرہ لگائیں۔
دائرہ کے اندر یہ آیت لکھیں اور دائرہ کے باہر چور یا بھاگے ہوئے شخص
کا نام لکھ کر ایسی جگہ دفن کریں جہاں کوئی چلتا نہ ہو۔ ان شاء اللہ چور یا گرہنختہ
شخص واپس آجائے گا۔

پھٹی دیوار نہ گرے | اگر کسی مکان کی دیوار پھٹ گئی ہو یا ٹیڑھی ہو گئی ہو
تو یہ شعر لکھ کر کاغذ اس دیوار پر چپکا دیں۔
ان شاء اللہ دیوار نہ گرے گی۔

الہی بحسرت معروف کرخی

بماند سالہا دیوار ترقی

برائے محبت زوجین | جس کا شوہر ناراض ہو تو یہ آیت مبارکہ کسی
میٹھی چیز پر پڑھ کر دم کرے اور مطلوب کو
کھلائے۔ اسی طرح ناراض بیوی کو کھلائیں۔ ان شاء اللہ مہربان ہو جائیگا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اٰنْدَادًا يُحِبُّوْنَہُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا اِذْ يُرُوْنَ الْعَذَابَ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعَذَابِ ؕ (سورہ البقرہ آیت ۱۶۵)

نوٹ :- جب سے متعلقہ تمام اعمال صرف جائز کاموں کے لیے کیے
جائیں۔ ناجائز کرنے سے نہ صرف گناہ گار ہوگا بلکہ اثر بھی نہیں ہوگا۔

دیگر شوہر اور بیوی یا جن انسداد کے درمیان محبت پیدا کرنی ہو تو یہ آیات مبارکہ شیریٰ پر دم کر کے کھلائیں۔

هُوَ الَّذِي آتَىٰكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ هُوَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
لَوْ أَلْفَقْتُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آتَىٰكَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ط إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ انفال آیت ۶۲-۶۳)

دیگر عروج ماہ میں دو شنبہ کے دن ہرن کی جھلی پر عرق گلاب و زعفران یا عرق توت کے ساتھ یہ آیت مبارکہ لکھیں۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (سورہ آل عمران آیت ۱۰۳) اور اس کے نیچے یہ عبارت
لکھیں يَا مُؤَلِّفَ الْقُلُوبِ اَلْفَ بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ۔

فلاں فلاں کی جگہ ان دونوں کے نام لکھیں جن کے درمیان محبت مطلوب ہے۔ طالب کے بازو پر باندھیں۔ ان شاء اللہ الفت پیدا ہوگی۔ عداوت ختم ہو جائے گی۔

دیگر درج ذیل آیت مبارکہ کو شیریٰ پر دم کر کے مطلوب کو کھلا دیں۔ محبت ہو جائے گی۔

يَجْتَهُمُ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

(سورہ المائدہ آیت ۵۴)

بُرے اور ڈراؤنے خوابوں سے نجات | سونے سے پہلے ان ہدایات پر عمل کرے۔

(۱) با وضو سوتے (۲) واہنی کروٹ سوتے (۳) بستر کو جھاڑے

(۴) سورہ البقرہ کی ابتدائی اور آخری چند آیات، آیت الکرسی اور

آخری تینوں سورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر کے سوئے۔

دیگر یہ دعا پڑھا کریں یا لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّاتِ
الَّتِي لَا يَجَاوِزُهَا مِنْ بُرُوءٍ وَلَا فَاَجْرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمٰوٰتِ
وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ
شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا
طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ۔

دیگر روزانہ بعد نماز مغرب با وضو سورہ مرسلات پڑھ لیا کریں۔

دیگر درج ذیل آیات مبارکہ کو زعفران سے لکھ کر گلے میں ڈالیں بہت
محبوب ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ وَثِيَابُكَ
فَطَهِّرْ ۗ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۗ وَلَا تَمُنُّنْ تُسْكِنُ رِبَّكَ
فَاصْبِرْ ۗ (سورہ المدثر پہلی سات آیات)

برائے وقع زہر کیڑا ہر قسم | ہر قسم کے زہریلے کیڑے (سانپ، بچھو،
بھڑ، زنبور وغیرہ) کے زہر کو دور کرنے
کے لیے جہاں کیڑے نے کاٹا ہو درج ذیل پڑھ کر دم کریں اور دم کر کے
پانی بھی پلائیں۔

اَوَّلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پھر درود شریف پھر یہ کلمات
مُكْتَبٌ ذَنْبٌ عَقْرَبٌ بِقَوْلِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ زہر بکھد
دہشده گروہ غنڈل ہم فرود آید زہر خزندہ و پرندہ ہم فرود آید یہ ہڈا

حَبِيبِ مِیْمَن خَیْلِ فِیْرِ بَابَا یَا نُوحَ نَبِیَّ اللّٰهِ یَا نُوحَ نَبِیَّ اللّٰهِ یَا نُوحَ نَبِیَّ اللّٰهِ
پڑھ کر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فوراً آرام ہوگا۔

حصنِ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آیتیں | جو شخص سورۃ التوبہ کی آفری
دو آیات لَقَدْ جَاءَ کَھو۔

..... الْعَرْشُ الْعَظِیْمِ۔ ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے یا نماز مغرب کے نوافل
میں پڑھا کرے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اس کی
عمر دراز ہوگی اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔

عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے پاک بستر پر
بیٹھ کر بالیٹ کر تین بار درود شریف دس بار سورہ

استخارہ مجرب | فاتحہ اور گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھ کر سینہ پر دم کریں اور قبلہ رو دائیں
پہلو لیٹ کر سو جائیں اور اپنے مطلب کا تصور رکھیں۔ چند دنوں میں خواب
میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یا کون سا کام
بہتر ہے۔

درج ذیل آیت مبارکہ کو بعد نماز عشاء ایک سو ایک بار
پڑھ کر پاک بستر پر اپنے مطلب کا تصور کر کے سو جائیں۔

سُبْحٰنَكَ لَا عِندَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ

(سورہ البقرہ آیت ۳۲)

سورہ انعام کی آیات ۵۹ تا ۶۲ وَعِنْدَ مَا فَتٰحُ..... اَسْرَعُ
دیگر | الْحَسِبِیْنَ ۰ کتان یا باریک کپڑے صاف پر لکھ کر سر ہانے رکھ کر سو
جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اس کام کا اچھا یا بُرا ہونا خواب میں
ظاہر ہو جائے گا۔

اسمِ اعظم | حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اسمِ اعظم ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

ہر نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ | حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ آیات پڑھ لیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سات انعامات سے نوازے گا۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیات۔

شَهِدَ اللَّهُ.....عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تِك (آیت ۱۸ - ۱۹) اور

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ.....بِغَيْرِ حِسَابٍ تِك (آیت ۲۶ - ۲۷)

- ۱۔ اس کا ٹھکانا جنت میں ہوگا۔
- ۲۔ وہ حظیرۃ القدس میں ٹھہرے گا۔
- ۳۔ اس کی طرف روزانہ ستر مرتبہ نظر رحمت کرے گا۔
- ۴۔ ہر روز اس کی ستر حاجتیں پوری کرے گا۔ جس میں ادنیٰ حاجت مغفرت ہے۔

۵۔ دشمنوں اور حاسدوں سے پناہ دے گا۔

۶۔ دشمنوں پر غالب رکھے گا۔

۷۔ جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

دیدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم | آپ حضور سرکارِ دو عالم صلی

اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص با وضو ہو کر سوتے وقت ان کلمات کو پڑھا کرے گا مجھ کو

خواب میں دیکھے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالرُّكْنِ الْمَكْرَمِ - اقْرَأْ رُوْحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
مِثِّي السَّلَامَ .

جو کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے اسمائے حسنة زناوے
اسماء حسنیٰ نام، کا اکثر ورد کرتا رہے گا تو اس کو جنت میں
داخل ہونے کی بشارت ہے اور ان اسماء کے وسیلہ سے جو بھی دعا
مانگے گا موجب قبولیت ہے۔



مراکز الطریقۃ والارشاد

آستانہ عالیہ لکھوڑیہ نزد داروغہ والا چوک لاہور موبائل: 4843648-0320 فون: 655788

آستانہ عالیہ عابدیہ سیفیہ جامعہ جیلانیہ نادر آباد کالونی بیدیاں روڈ لاہور کینٹ۔

فون: 5721609 فون جامع للبنات: 5893768 موبائل: 4263843-0333

موبائل عرفان اللہ: 4264924-0300

آستانہ عالیہ گلزار سیفیہ بابا فرید کالونی نزد سنٹرل جیل چوگی امرسدھو کوٹ لکھپت لاہور

فون: 5821973 موبائل: 4232664-0333

آستانہ عالیہ توگیرویہ سیفیہ بھوجیاں رائے و نڈ روڈ لاہور فون: 5321956

آستانہ عالیہ عباسیہ سیفیہ و دارالعلوم جامعہ سیفیہ تعلیم القرآن 1-1910/D، گجر پورہ سکیم ارشاد پارک

جانی پورہ شیر شاہ روڈ لاہور فون: 6844786 موبائل: 4229760-0333

فون: 6848798

آستانہ عالیہ زنجانیہ سیفیہ ازہر طریقت الشاہ سید عمیر علی زنجانی سیفی موبائل: 8427736-0300

گورنمنٹ لواز شریف ہسپتال بارہ درری بالقابل بابا شاہ بلور کوٹ خواجہ سعید لاہور

آستانہ ہیر طریقت ہیر صابر ریش عابدی سیفی نزد جامع مسجد مدنی خیر کالونی غازی روڈ لاہور کینٹ

آستانہ ہیر طریقت ہیر محمد نشاہ عابدی سیفی المعروف سرکار مبارک خانپور ہا ہا ہر درہ 18 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور فون: 042-7513028

آستانہ ہیر طریقت پرو فیروز اکڑ مشتاق احمد عابدی سیفی عظیم ٹاؤن رینالہ خورد ضلع اڈکازہ

فون: 04443-621523

آستانہ ہیر طریقت صاحبزادہ محمد شبیر عابدی سیفی کنجای گجرات فون: 82536-0433

پیر طریقت بابا نسیم اللہ خان سیفی آستانہ عالیہ حمیدہ سیفیہ نسیم چوک چور ڈیرہ غازی خان المعروف اندوالی مسجد

پیر طریقت ڈاکٹر محمد عمر فاروق عابدی سیفی

مکان نمبر E-372 رجب آباد عمر میڈیکل سنور بلال ٹاؤن بیدیاں روڈ لاہور کینٹ فون: 5714336

جامعہ سیفیہ رحمانیہ بنات الاسلام بادشاہی روڈ اودھوال کلاں گجرات فون: 0433-522233

بُسْتَانُ السَّالِكِينَ الرَّوْحِيَّةَ

ارشاد و لطائف

حقائق و معارف اور علم و عرفان کا ایک خوبصورت اور تاریخی
مزمع، سلوک و طریقت اور زوہد و حاشیت کے اسرار و رموز
پر ایک معتبر کتاب سالکین کے اوصاف اور مریدین کے آداب
کی مختصر اور جامع دستاویز، عالم اسلام کی نہایت جلیل القدر
اور روحانی شخصیات کی تصنیف لطیف

تصنیف لطیف

عارف باللہ حضرت مولانا شیخ محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی

ترجمہ

شیخ الشیخ شیخ القرآن والحدیث ابو عرفان مفتی

حضرت علامہ پیر محمد عابد بن سیدی

ناظم اعلیٰ جامعہ جیلانیہ

حضرت مجددِ ملت، بحر العلوم قیوم زمان سرفرازِ مقام صدیقیت و عبدیت

امام العاشقین محبوب سبحان سیدنا خاندزادہ

سیف الرحمن مبارک پیر ارچی خراسان کے مجرب تعویذات

پیارے سید

ترتیب

شیخ القرآن والحديث مفتی پیر محمد عابد حسین سیفی

اردو ترجمہ

پروفیسر حکیم مشتاق احمد عابدی سیفی

ناشر

شعبہ نشر و اشاعت ○ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ

نادر آباد نمبر 1، بیدیاں روڈ، لاہور کینٹ۔ فون: 5721609

موبائل: 0333-4263843


پرنٹرز: منگول آرٹ پبلشرز شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ فون: 7670719

موبائل: 0300-4126760



لطائف
کے باے
میں علمی تحقیق

مناظرہ وزیرستان



تصویر مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ

کیا دوسرے
شیخ کی
بیعت
جائز ہے

مفت تقسیم کرنے والے دوستوں کے لیے مکتبہ کی طرف سے خصوصی رعایت دی جائے گی

ناشر ادارہ محمدیہ سیفیہ پبلیکیشنز

آستانہ عالیہ راوی ریان شریف لاہور 0321-8401546

خریص علیہ
آداب شیخ
مسائل طہارت
جز الاسباب
ماہنامہ
السیف الصارم
جواب الاستفتاء
ختم شریف
کاشوت
مجموعہ رسائل
تشہد میں
انگلی اٹھانے
کا مسئلہ
سونایا کھونا
ولی اللہ
کی پرواز
الدر الجلیلہ
فی جواز الوسیع